


کیا خوب آدھتا



حالي پيشگفت هاؤس "كتاب گھر" دہلي

کیا خوب ادیتھا

(آل انڈیا ریڈ یوڈہلی کی اجازت سے)

ناشر

حالمی پبلیشنگ ہاؤس "کتاب گھر"

دہلی

قیمت ۲۰

بازار ۱۰۰

فہرست تقاریر

آل انڈیا ریڈ یو۔ دہلی

نمبر شمارہ	کیا خوب آدمی بھا	نام مقرر	صفحہ
۱	مولانا شاد الخیری	ملا واحدی	۵ اکتوبر ۱۹۷۹ء
۲	مولانا الطاف حسین حاتی	خواجہ عبد المجید دہلوی	۱۳ " " ۹
۳	مولوی نذری احمد دہلوی	مولوی عبد الرحمن	۲۳ " " ۱۶
۴	چکبست لکھنؤی	پنڈت برجمون فائز تکفی دہلوی	۳۲ " " ۲۳
۵	داع دہلوی	سید ودود دہلوی	۳۳ " " ۳۰
۶	مشی پریم پنڈ	جے ندر کار	۵۲ نومبر ۱۹۷۹ء
۷	مسح الملک حکیم اجل خاں	حکیم ذکی احمد دہلوی	۶۳ دارالدین " "
۸	ڈاکٹر محترم احمد انصاری	محمد غالب دہلوی	۷۸ " " ۲۰
۹	علامہ اقبال	مساز حسین	۸۸ فروری ۱۹۷۹ء
۱۰	سردار مسعود	خواجہ غلام السیدین	۹۹ " " ۲۱
۱۱	مولانا محمد علی	مولانا عبد الماجد	۱۰ سرماضح " "

تقریب

انسانوں کی زندگیاں کائنات کے سمندر میں لہروں کی طرح ہیں جو تھوڑی دیر کے لئے سطح بحر سے ابھری ہیں اور پھر اسی میں ال جامی ہیں۔ یہ لہریں دیکھنے والوں کو ایک سی دلکھائی دیتی ہیں اور ایک اسی ڈھرتے پر حلقتی ہوئی معلوم ہوئی ہیں۔ مگر کبھی کبھی ہوا کے تھپٹیرے سے کوئی زبردست موج اٹھتی ہے۔ جس کی قوت اور حرکت اس کی سماں اور سکون کے طلبہ کو توارکر دوڑتا سطح آب میں مخلل پیدا کر دیتی ہے۔ ایسی جاندار اور جان بخش شخصیت ہر زمانے میں اخصوصاً اس جمود کے دور میں جس سے ہمارا ملک گزر رہا ہے۔ عام لوگوں کے لئے دل کش بھی ہوئی ہے اور جبر آزمابھی۔ وہ اس کی طرف کچھ شکر کی کچھ شکایت کی نظر وہی سے دیکھتے ہیں اور زبان حال سے کہتے ہیں۔

کوئی ہو محروم شوخی ترا تو میں پوچھوں کہ بزم عیش جہاں کیا بمحکم کے برہم کی
آل انڈیا ریڈ یومبار کپاد اور شکریے کا سختق ہے کہ اس نے نہیں ایک سلسلہ تقریر
میں اپنے ملک کے کچھ ایسے لوگوں کی زندگی کی کہاں پا سننے کا موقع دیا جنہوں نے اپنے
جاہد ماہول ہیں کسی نہ کسی قسم کی حرکت پیدا کی یا شاعر کی زبان میں "بزم عیش جہاں" کو کسی نہ کسی
حد تک برہم کیا اور سب بڑی بات پیدا کر کے اسے ان بزرگوں ہیں کہ اکثر کے محروم شوخی ہاتھ آگئے۔
جنہوں نے نہیں ان کی زندگی کے بھیہ کا نوں کے سے نہیں بلکہ آنکھوں کے دیکھنے کہہتا ہے۔
ہمیں حالی پلٹنگ ہاؤس کا بھی شکر گزار ہونا چاہیے کہ اس نے آواز کی مضطرب لہروں کو
حرفوں کے نقوش میں قلم بند کر کے ہمارے لئے ایک پامدار ازالی نمرت ہمیا کر دی۔

ڈاکٹر سید عابد جیون۔ ۱۹۷۴ء۔ جولائی سال

مُصوّرِ عَنْ حَمْدَ عَلَامَهِ رَاشِدِ الْجَيْرَى مَرْجُومٍ

مصورِ عنِ حَمْدَ عَلَامَهِ رَاشِدِ الْجَيْرَى کی تصنیفات پڑھنے کے بعد اس کا یقین مشکل سے آنکھا ہے کہ مولانا خوش طبع بھی ہوں گے۔ اور چھپیں روارڈی میں مولانا سے ایک آوھہ مرتبہ ملاقات کا موقع ملا ہے وہ تو انھیں خوش طبع کیا تا یہ خوش اخلاق مانتے میں شامل کریں گے۔ مولانا نے دو قین کا میں مرا جیہہ لکھی ہیں لیکن ان کا امتیاز خصوصی ہر جن نویسی تھاتوجیں کی ساری عمر اور وہ کو مکانے میں گزری ہو وہ خود کیسے ہنس سکتا ہے۔ اور جو ملنے جلنے نہیں اتنا بیزار ہو کہ پڑے پڑے آدمیوں کو اس کی صحبت میں دوست بیٹھنے کی آرزو ہی رہے اسے مذاق کی کیا سوجہ سمجھتی ہے لیکن واقعہ یہ ہے کہ مولانا بے حد زندہ دل۔ بے حد شکفتہ مزاج۔ بے حد خوش طبع انسان تھے۔ میں ایسے میں شخصوں کو جانتا ہوں جو مولانا کے لڑکپن سے بڑھاپے تک دوست رہے۔ ایک مرزا محمد اشرف صاحب گورگانی۔ بی۔ اے۔ دوسرے مولوی اشرف جیں صاحب بی۔ اے۔ تیسرا سے قاری سرفراز حسین صاحب عزقی بنیوں مولانا کے سامنے ہی اللہ کے ہاں سدھار چکے۔ یہ ایک جماعت تھی جو علم و فضل اور ذہانت اور طباعی کے اعتبار سے دہلی کی آخری شیخ تھی۔ اور زندہ دلی میں بھی اپنا مانی نذر کھستی تھی۔ ان دوستوں میں کس طرح کامذاق ہوتا تھا اس کی دو معتدل مثالیں سننا ہوں۔ مولانا طرز تحریر میں شروع شروع شمس العلماء مولوی نذیر احمد صاحب یعنی اپنے پھوپاکے پر درستے تھے میں نے ایک دفعہ مولانا کو ”جانشین مولوی نذیر احمد“ لکھ دیا

مولوی نذیر احمد صاحب کے فرزند مولوی بشیر الدین صاحب مرحوم بھی میں کتابوں کے مصنف تھے۔ اور عمر میں مولانا سے بڑے تھے۔ انہیں کسی نے جا لگایا کہ بیٹے کے ہوتے بھیجے کو جانشین بتایا جا رہا ہے۔ مولوی بشیر الدین صاحب نے تو اس کی پروانہیں کی مگر قاری سرفراز حسین صاحب نے اس کا خاص اطیفہ بنادیا۔ کوئی شادی تھی جس میں ہم سب جمع تھے مولانا نے بہت ڈھیلی ڈھالی ٹھنڈوں تک نجی شیر داں پہن کھی تھی۔ قاری صاحب۔ مولوی بشیر الدین صاحب سے مخاطب ہو کر بولے۔ ”واحدی نے راشد کو جانشین مولوی نذیر احمد غلط نہیں لکھا۔ قسم ہے پیدا کرنے والے کی میں نے اپنی ان دونوں آنکھوں سے مولوی نذیر احمد کے پاس پہنچرداں دیکھی ہے۔ جو آج راشد کے جسم پر ہے؟“ ایک شام کو ایڈورڈ پارک میں یہی مجمع تھا۔ کوئی بدھا بسفید اڑھی خیڑدہ کر۔ بھیک مالگتا اس مجمع کے اندر آکھڑا ہوا۔ مولانا نے بے ساختہ کہا۔ ”اویسیاں قادری برکت اللہ۔ بڑی حدت میں شکل دکھائی۔ تمہارے دیدار کو تو انکھیں ترس گئیں“ قادری برکت اللہ صاحب۔ قادری سرفراز حسین صاحب کے والد کا نام تھا۔ اور یہ گفتگو قادری برکت اللہ صاحب کے انتقال کے پچاس برس بعد کی ہے۔

دو پھیتیاں یاد آگئیں۔ مولانا نے کبھی خضاب نہیں کیا۔ آخر وقت میں سر ڈار ڈھی اور کھویں سب بگلا تھیں۔ اور سر کے بال خوب بڑھے ہوئے اور اُبھے سے تھے ایک دن مولانا نگے سر کھڑے تھے کہ قادری صاحب آپسے اور فرمایا۔ ”حضرت مولانا وی کے پیچے میں نوکری کر لی ہے؟“ قادری صاحب خضاب استعمال کرتے تھے۔ ایک روز ڈھاما پاندھے تھے اور ڈھائی میں سے روئی ذرا باہر نگل رہی تھی۔ مولانا نے کہا۔ ”واہ قادری صاحب صرف دم کی کسر ہے؟“ یعنی دم لگا لو تو لنگو مر علوم دو گے۔

تینیس چوبیں سال سے مولانا کی اکثر میرے ہاں نشست رہتی تھی۔ اور مولانا کے آخری دور کے ہم تین سال تھی تھے۔ میں خواجہ فضل احمد خاں صاحب شیدا۔ اور مولانا عارف سہسوی ہم چاروں قریب قریب روز ملتے تھے۔ اور دن میں کئی کئی دفعہ ملتے تھے میں اپنے چاروں دوستوں کی جماعت میں نسبتاً خشک تھا۔ اس واسطے بے تکلفی مولانا کی حقیقتاً خواجہ فضل احمد صاحب اور مولانا عارف سے تھی۔ خصوصاً خواجہ فضل احمد صاحب سے۔ لیکن مولانا چوکتے مجھ سے بھی نہیں تھے۔ اور میں بھی ان کی مہربانیوں کے بیب آنگ تماخ ہو گیا تھا کہ "شام زندگی" لکھنے کا جب فیصلہ ہوا تو مولانا ہمیندوں اڑان گھا سیاں دیا کئے۔ مولانا نے بے شمار کتابیں تیار کر ڈالیں۔ لیکن مجبور ہوئے بغیر قلم ہاتھ میں نہیں لیا کرتے تھے۔ اپنی طبیعت سے مجبور ہو جائیں یا بچوں اور دوستوں کی خواہش سے دب جائیں۔ بہر کہیں لکھتے تھے۔ زبردستی سے اور لکھتے تھے تو دس منٹ سے گیارہوں منٹ لکھنے پر صرف نہیں کرتے تھے۔ دس منٹ لکھا اور پاہرا گئے۔ میرے ہاں تشریف لے آئے کسی تانگہ والے کے پاس جا کھڑے ہوتے۔ کسی دکاندار سے باقی کرنے لگے اور پھر جا کر لکھنا شروع کر دیا۔ اور پھر دس منٹ بعد کسی کاٹنے لگی۔ یہی سلسلہ تمام دن جاری رہتا تھا۔ میں نے شام زندگی لکھنے کے فیصلہ میں رخصہ پڑتے دیکھا تو ایک بہت چھوٹی کوٹھری میں میز کری بھپوادی۔ اور مولانا آئے تو ان سے کہا۔ "چلو اس کوٹھری میں" اور ان کے کوٹھری میں گھستے ہی کنڈی لگادی۔ اور سنادیا کہ چاہے لکھو۔ چاہے نہ لکھو کنڈی دو گھنٹے سے پہلے نہیں کھلے گی۔ مولانا عارف اس سازش میں شرکیں تھے۔ مولانا نے ایک دفعہ عارف صاحب سے فرمایا۔ "اے تجھے خدا نے کانگرس کی محبت اس نے دی ہے کہ تو بار بار جلی جائے

اور میرے جس بے جا کا پدھر اترے۔ اچھا ہے یہی بھگت لے ورنہ خدا کے ہال بیدیں کھانی پڑتیں۔ مولانا کو کھانے پکوانے اور غرباً کو کھلانے کا بے حد شوق تھا۔ یہیں دو تین بار دیگیں نہ کھڑکیں تو وہ پڑ مردہ ہو جاتے تھے۔ مجھے بھی دیگ کاسالن بھائما ہے۔ لہذا جب دیگ چڑھتی تھی مولانا کہہ دیتے تھے۔ ”لآجی شام کو پیالہ بھیج دینا۔“ اور میں پیالہ بھیجتا تھا۔ ایک دن اس خاص کھانے کی اطلاع کے بغیر خواجہ فضل احمد صاحب کی مولانائی دعوت کردی۔ مغرب کی نماز کے بعد خواجہ فضل احمد صاحب پہنچنے تو کیا دیکھتے ہیں کہ کچھ بھی بربی اور ملائے۔ سُخان۔ بخاری۔ بنگالی کھڑے ہیں۔ اور سب کے ہاتھ میں پیالے ہیں۔ خواجہ فضل احمد صاحب کہتے ہیں کہ میرے آگ لگ گئی لیکن مولانا نے یہ کہہ کر ٹھنڈا کر دیا کہ ”فضل لو تیرا پیالہ کہاں ہے۔ ارے بے پیالے ہی آگیا۔ چل بھاگ یہاں سے۔ میں سالن بھی دوں اور پیالہ بھی دوں۔“ پھر قریب پہنچ کر ہاتھ پکڑا اور جمپکا کر فرمایا۔ نواب صاحب یہ کھانا انہی لوگوں کے داسٹے پکوایا کرتا ہوں۔ آپ نے عقل سے کیوں کام نہ لیا۔ میں حضور کی دعوت کرتا تو ہبھا حضور کی نہ کرتا۔ اتنے میں عارف صاحب بھی آگئے۔ ان کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ حضور کی دعوت کرتا تو اس عرف کی بھی تو کرتا۔ اور بھی تو ان لوگوں کے ساتھ کھانا ہے تو کچھ ان میں سے اور پر کھار ہے ہیں۔ جاؤ۔ تم دونوں بھی کھا لو۔“

عارف صاحب کا انتقال مولانا کے انتقال سے صرف پندرہ دن پہلے ہوا تھا۔ عارف صاحب کے انتقال کی خبر مولانا کو نہیں ہونے دی تھی۔ عارف صاحب مولانا کو پوچھتے پوچھتے مر گئے اور مولانا عارف صاحب کو مرتے مرتے پوچھا کئے۔ آخری دونوں میں کسی نے مولانا سے کہہ دیا کہ عارف اب اچھے ہیں۔ مولانا نے فرمایا۔ ”کیوں مجھے بنلتے

ہو۔ وہ بھلا بچنے والا تھا۔ وہ چاچکا لیکن ایک آدھ کو اس کے پنجھے پنجھے ضرور جانا پڑے گا۔ ایکلے اس کا دل تھوڑا ہی لگ سکتا ہے۔ انتقال سے چار روز پہلے شہنشاہ جارج پنجم کی رحلت کا کوئی صاحب ذکر کر رہے تھے۔ ایک بزرگ بوئے کیوں جی اب بادشاہ کا بیٹا تخت پر بیٹھے گا۔ مولانا کی مقاہست کی وجہ سے آنکھیں بند ہوئیں یہ لوچپ سوال سن کر بے اختیار آنکھیں کھول دیں اور زبان پر برجستہ یہ فقرہ آیا۔ ”نہیں جناب کے حق میں وصیت کر گئے ہیں۔“

غرض جس طرح تحریر و تقریر میں مولانا ہر فقرہ کو دردواثر سے بھردیتے تھے اُسی طرح بات چیت میں مولانا کا ہر فقرہ پر لطف ہوتا تھا۔ مولانا نے بڑی صحبت میں بھپس کر دیوی بچہ سے بے پرداہی اختیار کر لینے والے ایک شوہر کی اور اس کے بیوی بچہ کی تصویر بھیجی ہے۔ بچہ کی زبان سے کہلواتے ہیں۔ ”اماں۔ اباہم کو گود میں نہیں لیتے۔ خیر۔ میں اب بڑا ہو جاؤں گا۔ میں بھی اماں ہی کو گود میں لوں گا اپا کو نہیں لوں گا۔“

ماں بچہ کی بات پر سہلے مسکراتی ہے۔ بھر بچہ کو خوب بھینچکر پیار کرتی ہے۔ اور جواب دیتی ہے۔ ”اللہ تعالیٰ عمر دراز کرے۔ تم جیتے رہو۔ میں بھی سب کچھ ہو۔“ بچہ اور ماں کے فقرے کیا ہیں۔ تیر دشتر ہیں۔ دوسری فقول میں مولانا نے دل ہلا دیئے۔ وہی مولانا مرتبے مرتے مذاق کرتے ہیں کہ شہنشاہ جارج پنجم ان صاحب کے حق میں وصیت کر گئے ہیں جنہیں فکر تھا کہ شہنشاہ جارج پنجم کا جانشین کون ہو گا مولانا بالکل آزاد اور بے نیاز طبیعت کے انسان تھے۔ جو کیفیت ان پڑھاری ہوتی تھی اسے ظاہر کر دینے میں انھیں باک نہ تھا۔ تحریر۔ تقریر۔ بات چیت میں ملائیں

سب مواقع پر مولانا کی اس طبیعت کا اظہار ہوتا تھا۔ لگھر میں کرتے آتے ہے اور تہ بند پاندھے بٹھیے ہیں۔ آپ ملنے جائیئے۔ وہ اسی شان سے باہر آ جائیں گے۔ آپ کتنے ہی بڑے شخص ہوں آپ کے سامنے بن کر نکلنے کا خیال ان کے دل میں نہیں گز رے گا اللہ اور اللہ کے برگزیدہ بندوں کے سوا انہوں نے کسی کی بڑائی کے آگے کبھی سر نہیں جھکایا۔ اور کبھی کم حیثیت لوگوں پر اپنی بڑائی کی وھونس نہیں جمایی۔

ایک طرف ان کی یہ حالت تھی کہ گئے چھنے دو چار اجنبی کے درمیان بٹھیے ہیں۔ یکاپ کوئی ابھی آگیا اور مولانا نے ایک کھی نہ دو کھی اور اٹھ کھڑے ہوئے۔ خاص مولانا ہی کے ملنے کی کسی نے زحمت گوارا کی ہے اور مولانا اس سے بات کرتے مجھراہے ہیں۔

بامیں تنسیں برس کی بات ہے۔ مولانا جامع مسجد کے نیچے سے چلے آتے تھے دہلی کے ایک مشہور شاعر نے مولانا کو آداز دی۔ پنجاب کے ایک بڑے آدمی شاعر صاحب کے ہمراہ تھے۔ شاعر صاحب نے کہا: "مولانا یہ فلاں صاحب ہیں۔ آپ کی زیارت کے مشتاق تھے" مولانا دو سینکنڈ روکے اور فرمایا۔ "چھا" اور روانہ ہو گئے۔ سو ایک طرف تو یہ حالت تھی اور دوسری طرف دیکھنے والوں نے دیکھا ہے کہ رمضان کا ہدینہ جمعہ کی شام سینکنڈوں مرو عورت مولانا کے ہاں سے کھانا لے جا رہے ہیں۔ ایک بڑھے کو مولانا نے اپنے ہاتھ سے کھانا لا کر دیا۔ اور پھر دو تک اس سے بامیں کرتے چلے گئے۔ یہ مولانا کے بچپن کے یار تھے۔ لنگوٹے یار۔ بچپن میں انسان ہر درجہ اور ہر حیثیت کے بچوں میں انھستا بیٹھتا ہے۔ مگر بڑا ہو کر سب کو

بھول جاتا ہے۔

مولانا نے جوانی میں رُنگ کی تھی۔ ایک پہلوان ان کے ہم عمر بھی مرے ہیں ان سے بس یہ وضع تھی کہ آنسا سامنا ہوا اور مولانا کا چہرہ کھل گیا۔ اول غلبیں کھل گئیں۔ اب سینہ آگے ابھارے جاتے ہیں۔ قریب پہنچے اور پہلوان صاحب کو لگئے لگایا۔ مزاج پرسی کی۔ بال بچوں کو پوچھا۔ ایک آدھ ہنہی کی بات کی اور حضرت حضرت شاہ ولی اللہ رحمہ اور حضرت شاہ عبد الغفریر رحمہ کے خاندانی قبرستان مہندیوں میں ستراہی برس کے ایک صاحب رہتے ہیں۔ ان کا اسم گرامی بھی عبد العزیز ہے۔ بہت سیدھے سادے بھولے بھالے اور نیک آدمی ہیں۔ مگر زبان اور طرزِ گفتگو کر خنداری ہے۔ مولانا کی اور عبد العزیز صاحب کی بڑی مزیدار باتیں ہو اکتی تھیں۔ یہ مولانا کو جہاں مل جاتے وہیں مولانا ان سے گھس مل کر باقیں شروع کر دیتے۔ ایک دفعہ کی باقی سنئے۔

حضرت سلطان نظام الدین اولیا، کی ستھوں تھی۔ مولانا فیض بازار کی پڑی پر کھڑے ستھوں میں جانے والوں کے تامگوں اور سوڑوں کا تماشہ دیکھ رہے تھے کہ عبد العزیز صاحب تشریف لے آئے۔ مولانا نے پوچھا۔ کہاں سے عبد العزیز صاحب بولے: ”میاں سلطان جی۔ سے چلا آتا ہوں۔ میاں دہاں ہُن برس رہا ہے ہُن۔“ مولانا نے فرمایا: ”عبد العزیز تھیں رشک آتا ہے تو تم بھی پری مریدی کرنے لگو۔“ عبد العزیز بولے: ”میاں ہمیں رشک کا ہے کوئے نہ لگا۔ مولوی صاحب۔“ تم نے قرآن تو پڑھا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ بندے سارے گناہ معاف کر دوں گا۔ ایک سے نے کرہزار گناہ کر کے آجا۔ کوئی مصلحت نہیں لیکن گر

تونے مترک کیا تو سمجھے لے بخشوں گا نہیں۔“

بے پڑھے لکھے دوستوں سے مولانا اس طرح ملتے تھے جیسے خود بھی پڑھے لکھنے نہیں ہیں۔ عبدالعزیز کے اس سوال سے کہ تم نے قرآن تو پڑھا ہو گا فنا معلوم ہوتا ہے کہ یہ دوست انھیں اپنے سے رد پے پیسے میں اونچا سمجھتے تھے اور یہ ایسا فرق تھا جسے مولانا چھپانے سکتے تھے۔ ورنہ مولانا نے انھیں یہ محسوس نہ ہونے دیا کہ مولانا مسٹر اسٹی کتابوں کے مصنف ہیں۔ لڑکیوں کی تعلیم و تربیت کے لئے اتنی جدوجہد کر کر ہیں کہ دنیا ان کی گردیدہ ہے۔ ملک کے مصلحوں ہیں ان کا شمار ہے۔

مولانا جاہل دوستوں کو کیا محسوس کرتے جنود ان کو اپنے بلند مرتبہ کا احساس نہ تھا۔ دنیا ان کی پابت کیا رائے رکھتی ہے وہ اسے سوچتے بھی نہ تھے۔ ۱۹۳۴ء کے بہت بعد تک دلی پرانے لوگوں سے بھری رہی۔ مولانا نے ان کی صحبت پائی اور قدیم ہندیب کا دم مولانا کے سامنے ٹوٹا تھا۔ ۱۹۳۷ء میں اب سے دور خواجہ فضل احمد صاحب کی رٹکی جو اس وقت سیکر میں تھی سخت بیمار پڑ گئی۔ جس کی وجہ سے خواجہ فضل احمد بہت پریشان تھے۔ اس کی خبر پاکر مولانا دن میں کئی کئی بار خواجہ فضل احمد صاحب کے ہاں جاتے اور دریافت کرتے۔ کوئی خبر آئی۔ کوئی خط آیا۔ کوئی تار آیا اور ہر طرح تسلی شفی دیتے۔

خواجہ فضل احمد صنما کا بیان ہے کہ جس دن میں سیکر روانہ ہونے لگا ہوں اس دن بہت دیر مولانا میرے پاس ٹھیرے۔ چلنے لگا تو قریب آکر کان میں کہا۔ ”رد پے کی ضرورت تو نہیں ہے۔“ میں نے جواب دیا ”نہیں۔ الحمد للہ“ لیکن

اُن کی اس دل سوزی کی ادا سے جی باغ باغ ہو گیا۔ اور قدیم دوستوں کے جو تذکرے
اگئے بزرگوں سے سنتے تھے اُن کی تصویر آنکھوں کے سامنے پھر گئی۔

مولانا شاد می کی محفلوں میں زیادہ شرکیب نہ ہوتے تھے لیکن تکلیف اور غم
اپنے تو اپنے بخوبیوں کے ہاتھی سنتے تو تڑپ جاتے۔ غریب سے غریب مسلمان کے
جنمازے کے ساتھ چالیں قدم جانا اب صرف مولانا پر فرض رہ گیا تھا۔

نصیر خاں اور اس کی بیوی مولانا کے تربیت گاہ بنات میں ملازمت تھے۔ بڑھیا
بچپوں کو گھروں سے لانے کا کام کرتی تھی اور بڑھے کے پر وڈیوڑھی بانی تھی۔ بدھا
مرنے لگا تو سلیمان راشد الجنزی کو ساتھ لے کر اس کے تنگ اور تاریک مکان میں جائیجیے
اور پوری رات مرنے والے کے سرہانے آنکھوں میں کاٹ دی۔

ملاؤحدی

شمس العلماء مولانا الطاوف حسین حائلی

شعر حائلی پر ادبی تصرف

تذکرہ حائلی مرحوم کا اے خواجہ نجفیہ نہ سنا جائے گا ہم سے یہ فنا نہ ہرگز
رہ گھیروں کا بندھا ہے تانتا ایک ہے آتا۔ ایک ہے جاتا
جو آیا اس کو ہے جانا جو کہ گیا اس کو نہیں آتا
سب مرتے آئے ہیں اور مرتے چلے جائیں گے۔ دو آنسو پہاڑے۔ چار دن خیال
آیا۔ دن گزرے بھول گئے۔ نہ نام ہے نہ شان ہے۔ مگر ایسے بھی مرتے ہیں جو نام نہ شان
چھوڑ مرتے ہیں۔ رسول ان کے ذکر ہوتے ہیں۔ صد یوں ان کے تذکرے رہتے ہیں جنہوں
نے دیکھا ان کی تو کیا بات۔ جنہوں نے نہیں دیکھا وہ بھی یاد کرتے ہیں اور کہ افسوس
ملتے ہیں کہ ہائے وہ صحبت نصیب نہیں ہوئی۔ ان کا ایک ایک بول انوں ہوتا ہے
ان کی ایک ایک بات لاکھ روپے کی۔ زندگی کے واقعات کا کھوج لگایا جاتا ہے پڑھتے
ہیں۔ سنتے ہیں اور خوش ہوتے ہیں۔ یہی آدمی زندہ جاوید ہیں۔ یہ عرف عام ہے۔ بے
معنی بھی نہیں۔ اور بامعنی بھی نہیں۔ زوال ذات لا یزال کے سوال ہیں ہے۔ دیر اور زد
کا سوال ہے۔ ادھرنہ بان مری اور اس کے ادیب فنا ہوئے۔ دست بُرُ در دزگارنے
کسی کو چھوڑا ہے۔ کیا جانے کتنے سعدی اور حافظہ ہوئے ہوں گے۔ جن کا آج نام تک
باتی نہیں۔ بغیر جو کچھ بھی ہو۔ زندہ جاوید ہستیوں میں سے ایک حائلی بھی ہیں۔ ان کی
صحبت اور ان کے واقعات جو آپ بنیتے ہیں ان کے لئے بھی ایک دفتر درکار ہے۔ اس

مختصر تقریر میں آنامحال۔ جو کچھ بہ پڑے گا عرض کر دیں گا۔ اور ذکر حبیب سے خوش کر دیں گا۔

آن (خواجہ حالی) سے خاندانی تعلقات میرے دنیا میں آنے سے پہلے کے ہیں۔ نواب کرم اللہ خاں شیدا۔ اور مولوی عبدالرحیم خاں بیک میرے چھپا اور بادا ان کے رات دن کے ہنچین اور مرتبے دفتر کے ساتھی۔ میں ان کا بچہ۔ ہوش سپھالا۔ تو حالی کو دیکھا۔ دیکھا نہیں۔ گود دل میں پلا۔ پھر حیدر آباد دکن چلا جانہ ہوا۔ اور یہ صحبت ختم ہو گئی۔ حالی کے دو شعر میرے دعویٰ کی دلیل ہیں۔

بخت ہمداستانی شیدا تو نے آخر کو نارسانی کی!

صحبت گاہ گاہی رشکی تو نے بھی ہم سے بے وفائی کی

شیدا نواب کرم اللہ خاں کا تخلص۔ اور شکی نواب محمد علی خاں نواب چہانگیر آباد کا۔ یہ اس زمانہ کے شعر ہیں جب حالی روزگار کی خاطر لا ہو رہے گئے تھے۔ اسی زمانہ کا ایک اور شعر ملاحظہ ہو۔ یہ بھی میرے قول کی تائید میں ہے۔

دلی سے نکلتے ہی ہوا جینے سے دل سیر
گویا نہ رہا اب کہیں دُنیا میں ٹھکانا

اس وقت معاش کی تنگی دل تنگی کا باعث تھتی۔ غدر کے بعد سارے دلی والے بے ما یہ اور تتر بتھ ہو گئے تھے۔ حالی بھی ان ہی میں تھے۔ ہنر کی پرس و جو چاندی رہی تھی۔ اس کی شکایت کیا۔ حالی کے حال میں یہ حالت بد بدیر قائم نہ رہی۔ ہند جو در حمل پچھتہ کاری کا زمانہ ہے۔ تسلیم ہے کہ حالی پر خوش حال اور فارغ ابالي

میں تو نہیں گزرا مگر فکر معاش سے بے فکری ہو گئی۔ حیدر آباد کی سرکار سے دنیفہ مقرر ہو گیا۔ لیچے گزارے کی صورت بخیل آئی۔

خواجہ حالی سرپید کے وفد میں شرکیں حیدر آباد تشریف لاتے ہیں۔ اس وقت بندہ کی عمر بارہ تیرہ برس کی ہے۔ وفد بشیر باغ میں آمارا جاتا ہے۔ سرکاری ہہماں ہوتا ہے۔ جلسے ہوتے ہیں۔ لکھر بازیاں ہوتی ہیں۔ یہ خاکسار ان صحبتوں ہی طافر ہوتا ہے۔ حالی کا کلام اور سرپید کے لکھرستا ہے۔ وفد وداع ہوتا ہے اور سرکاری ہہماں داری ختم۔ حالی کا پچھہ اور قیام کا چیال ہے۔ ہمارے غریب خانہ پڑا ہے آتے ہیں۔ والد مرحوم کی حیدر آباد کے امرا اور اعلیٰ عہدہ داروں کے مقابلہ میں کیا بساط تھی۔ رہنے کو نہ محل نہ کوٹھی۔ معمولی ہندوستانی مسکان۔ مگر دیسیع اور عمدہ آب و ہوا۔ شہر سے فاصلہ پر بسواری کو ہماری ایک گھوڑے کی ہردم گاڑی۔ نہ جوڑی۔ نہ چوکری۔ مگر اس اللہ کے بندے نے اسی کو ترجیح دی۔ امرا کا اصرار ہوا عہدہ داروں کا تقاضہ۔ مگر اس طرف سے صاف انکار۔ سب سے زیادہ سیدین بنگرامی نے بار بار ہمارے گھر پا کر حالی صاحب کو دعوت قیام دی۔ جواب یہ ملا کہ جس خاندان کا ہمپتہ ہہماں رہا ہوں اسی کا ہہماں رہوں گا۔ اس کے خلاف وضعداری کے خلاف یہ خوش گوار صحبت ہمینہ سو اہمینہ تک رہی۔ پھر حالی وطن سدھارے اور بقول ان کے یہ کہنا پڑا۔ ناؤ کا سانجھوگ سے یاں کا۔ پھر ایک زمان گزر گیا۔ ہم کہماں اور حالی کہماں۔ والد مرحوم سے خط و کتابت جاری تھی۔ غزلیں جاتی تھیں اور اصلاح ہو کر آتی تھیں۔ اپنے تازہ کلام سے بھی یاد فرماتے رہتے مزے لے کر پڑھتے اور پیاروں کو سناتے۔ بچپن کا حافظہ جفظ بھی ہو جاتا تھا۔

یہ سارا ذخیرہ موجود تھا مگر حالی کے صاحبزادے مجھ سے لے لیا۔

یہاں ایک بات قابل ذکر ہے، یہ ہم نے صرف دو شاعروں ہی میں پائی ہے ایک حالی دوسرے داعٰؒ۔ دونوں خنزہائے نہ تھے۔ باقی جتنے دیکھئے۔ نہ کچھ تھے نہ بات۔ مگر خنزوں میں طاقتِ حالی کے پاس جہاں کوئی آیا۔ اس کی رعبت کلام کی طرف پائی۔ فوراً بیاض کھول دیجئے اور سنا نام اشروع کر دیا۔ دوسروں کا کلام بھی بخندہ پیشیانی سنتے اور خوب واد دیتے۔ ایک واقعہ اسی قبیل کا عرض کرتا ہوں۔ اگرچہ بہت بعد کا ہے۔ مسٹر سین جو اس وقت دہلی یونیورسٹی کے رہبڑا رہیں۔ یہ میرے شش کالج کے ساتھی پروفیسر ہیں، حالی صاحب دہلی آئے ہوئے تھے۔ اور ہمارے ہمراں۔ ان سے بھی تذکرہ آیا۔ ملاقات کا شوق ظاہر کیا۔ میں ساتھ لئے چلا آیا۔ تعارف اس عنوان سے ہوا۔ کہ صاحب موصوف فلسفہ کے پروفیسر ہیں اور اپنے فن میں کیا ہے روڈگار۔ انہوں نے عرض کیا کہ وہ اپنے فلم سے کچھ لکھ دیں اور یہ بطریق یادگار جز جا بنای کر دیں۔ بلا کملت ایک کاغذ کا پر زد لے اس پر یہ رباعی لکھ جو اسے کی جو ان کے حسب ہے۔ غالباً انہوں نے اچھی طرح رکھ جھوڑی ہو گی۔

ہندو نے صنم میں جلوہ پایا تیرا آتش پر مغاں نے راگ گایا تیرا

دہری نے کیا دہر سے تغیر تجھے انکار کسی سے بن نہ آیا تیرا

مجھ سے زیادہ میری بیوی سے ان کو تعلق تھا۔ وہ نوابِ کرم اللہ کی متبنی صاحبزادی ہم توحید رآباد بھی چلے گئے۔ مگر ان کا تو پہلی کارہنا سہنا۔ اور ان کا ردہ کا آنا جانا۔ پھر اپس کا ربط حضیط۔ جتنا تعلق ہوتا کم تھا۔ یہ وہ زمانہ ہے کہ ہمارے خاندان میں پردہ کی دہشت تھی کہ الامان۔ زمان غافلہ میں پردہ

پر نہ مارتا تھا۔ بلگر میری بیوی کا ان سے پردہ نہ تھا۔ میری شادی کے بعد کبھی ایسا نہیں ہوا کہ حالی تشریف لائے ہوں اور آتے جاتے گھر میں اس پاس ہو کر نہ گئے ہوں۔ آخر مرتبہ جب دہلی تشریف لائے اور رخصت ہونے کو گھر میں آئے تو میں بھی موجود تھا۔ صحبت میں کوئی خاص خرابی نہ تھی۔ ضعفیت پیری ضرور تھا۔ جاتے وقت فرمائے گئے۔ میٹی خدا حافظ۔ اب ملنا نہیں ہو گا۔ وہ روئے گئی۔ یہ بھی آبیدہ ہو گئے دافعی اس کے بعد وہ ان سے نہیں ہو گئی۔ وہ دہلی آئے مگر مفلوج۔ ایک کوئی بھٹی میں اترے میں بار بار گیا۔ بلگر پردہ کی وجہ سے وہ نہ جا سکی۔ اس زمانہ میں گوپانی با لکھ مفقود تو نہیں ہو گئی تھی۔ بلکہ سلسلہ میں مشکل سے ایک دو لفظ بول سکتے تھے۔ پہلی مرتبہ جب رسول حنفی معاشرہ کو آیا۔ میں حاضر تھا۔ وہ کسی پر بیٹھے ہوئے تھے۔ اور میرزا منے رکھی تھی میر پر سے قلم اٹھا کر رسول حنفی نے ان کے سامنے کی اور پوچھا۔ یہ کیا ہے۔ یہ امتحان کے طور پر تھا۔ حالی صاحب کی عادت تھی جب ان سے سوال کیا جاتا تو سلسلہ کلام خیر کے لفظ سے شروع کرتے۔ اور یہ ایک خاص لمحہ میں ہوتا تھا۔ پھر ایک تبریز کی کیفیت چہرہ پر نمایاں ہوئی جس کا لطف دیکھنے ہی پر منحصر ہے۔ چنانچہ اس وقت بھی خیر کا لفظ عادت کے موافق آہستہ سے کہا اور سکراۓ۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ وہ رسول حنفی کے اس سوال پر ہنسنے ہیں۔ اور کہتے ہیں کہ میں ایسا بیہوش نہیں ہوں۔ پھر قلم کا لفظ منہ سے نکلا۔

اس کے بعد حالی صاحب پانی پت پلے گئے۔ اور میرے یہ خدمت پر دہوئی کہ وہاں سے جو کیفیت ملیخ کی تکھی ہوئی آئے رسول حنفی سے کہہ دیا کروں۔ جو جواب ملے لکھ بھیجا کروں۔ یہ کام چند ماہ تک جاری رہا۔ پھر ان کا اشغال ہو گیا۔

جس دن میں ان کو چپ دیکھ کر آیا تھا دل ملوں اور خاطر متاثر تھی۔ اسی حالت میں یہ چند شعر موزوں ہوئے۔ جو حاضر ہیں۔

ہر زندہ گراس کو چپ لگ گئی ہے	یہ احوال حالی کا خواجہ سے کہہ دو
مگر کس بلا کی یہ کار بگردی ہے	یہ حالی نہیں اُس کا بت ہو تو ہو یہ
خوشی تو ضرب الش موت کی ہے	سکوت مجسم تنجیب کی جا ہے
مگر یہ سزا تو نہ الی ملی ہے	سزا میں بہت ملتی دیکھی ہیں لیکن
زبان تم نے ملیل کی کیوں جھینیں لیں	جو بکو ایسا ہو اُسے چپ لگا دو
ہر اک بات ہی بچوں جھترتے ہیں اسکی	یہ میں شرم پھولو لاڑ کی لگی ہے

اس زمانہ کا ایک اور واقعہ سنئے۔ آخری مرتبہ صحبت کی حالت میں جب حالی صاحب ولیٰ تشریف لائے تو میرے لڑکے خواجہ محمد شفیع کی عمر کوئی پانچ چھے برس کی ہو گی۔ ان کے دولادوں کا لادلا خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی میرے واسطے کوئی شعر کہہ دیجئے۔ وعدہ کر لیا۔ مگر جب جانے لگے تو اس سے کہتے گئے کہ میا میں نے بہت سو شش کی بگراب دماغ میں شعر کہنے کی طاقت باقی نہیں۔ اسی زمانہ کا ایک اور واقعہ عرض ہے۔ میں حالی صاحب کی خدمت میں حاضر تھا۔ سامنے سے شفیع لکھیتا ہوا گزرا۔ میں نے "تو" کہہ کر منحاطب کیا۔ بولے۔ تم اس کو تو کہہ کرنہ پکارا کرو۔ بچوں سے اس طرح نہیں بونا چاہیے۔ اس سے ان میں سلیف رسپکٹ (self respect) کم ہو جاتی ہے۔

جب میرے والد کا انتقال ہوا۔ تو حالی صاحب زندہ تھے۔ اطلاع ہوئی تو تغیرت نامہ لکھوا کر بھیجا۔ اپنے ہاتھ سے معدودت میں صرف ایک سطر لکھ دی

اپنیں اس سفر کے حالات بیان کرتا ہوں جو ان کی ہمراہی میں پیش آیا یہ وہ زمانہ ہے کہ حیدر آباد میں اعلیٰ حضرت میر محبوب علی شاہ دکن کی جو بلی کی تیاریاں ہیں۔ سر اکبر حیدری نے حاکم کو حیدر آباد بلایا۔ عشا یہ تھا کہ اس پادشاہ دکن کے عہد کی ان سے تاریخ لکھوائی جائے۔ میرا بھی قصد حیدر آباد کا تھا جشن میں شرکت کی غرض سے نہیں۔ دیدار احباب کے لئے چنانچہ جشن کی تاریخوں سے قبل ہی واپس ہو گیا۔ میری اور حاکم صاحب کی تاریخ روانگی میں اختلاف تھا۔ میں پابند وہ آزاد میری خاطر جانا ملتوی کر دیا۔ غرض میری محبت نہ تھی بسفر میں سہولت بد نظر تھی عمر زیادہ ہو جانے کی وجہ سے کوئی تن کا آدمی ہونا ضرور تھا۔ بڑے صاحبزادے ساتھ تھے۔ حاکم صاحب دنیا کے کار و بار سے بے خبر یہ صاحبزادے ان سے بھی زیادہ بالکل اللہ والے یہ استعارہ نہیں جو حقیقت ہے۔ میرن صاحب بھی ہم سفر تھے۔ آپ میرن ان کا بھی تھوڑا اعلیٰ لیجئے یہ وہی میرن صاحب ہیں جن کا ذکر بار بار رقابت غالب میں آتا ہے جن وجمال میں فرد اور نیک مراجی میں یکتا۔ لازم و ملزم آواز میں سوز سوز خوانی اختیار کی۔ با کمال ہوئے میں نے انھیں بڑھا دیکھا ہر روز کا آنا جانا تھا۔ کھنڈ رہ گیا تھا۔ مگر گزشتہ جاہ و جلال جھلک رہا تھا وانت منقوڈ مگر آواز میں سوز و گداز موجود فن موسیقی کی مہارت ماہران فن کو شرمندہ کرنے والی غالب کی برکت کہئے یا سر اکبر حیدری کی قدر شناسی اور بہر پروردی یہ بھی حیدر آباد اس موقع پر طلب ہوئے۔ پھر حسب جیشیت و ظیفہ سے فیضیاب ہوئے دعائے دولت و اقبال میں آخری لمحے زندگی کے آرام سے گزار چل بے۔ ہم تینوں کیہ کلاس میں تھے اور میرن صاحب تھرڈ میں۔ مگر نیہاں سے منماڑیک وہاں سے ان کا

بھی سینکڑ کا ہی ٹکٹ پایا گیا۔ یہاں کا ایک لطیفہ قابل عرض ہے۔ اب تک مجھے یاد ہے جو ریل برآہ اور نگ آباد جاری تھی۔ اس پر سوار ہوتے۔ اول تو یہ جھوٹی لائیں۔ اس پر طرہ یہ کہ جدید جاری شدہ۔ بہت سست حلپتی تھی۔ ول اکتا یا جاتا تھا۔ حاکی صاحب نے میرن صاحب سے کہا۔ بھائی یہ تجویں کی چال حلپتی ہے۔ میرن صاحب کی طبیعت بات میں کچھ اضافہ کئے بغیر کیسے مانے۔ وہ بولے۔ اے جناب یہ تو پیٹ والی جوں کی چال حلپتی ہے۔ میں اور حاکی صاحب یہ سن کر سنہن پڑے۔ میرن صاحب نے خوب کلام میں اضافہ کیا۔ ایک اور صیبت میش آئی۔ انگریزی ہندوستانی کسی قسم کے کھانے کا ایشنوں پر انتظام نہ تھا۔ تو شہر ختم ہو چکا تھا بھوکے تھجھنے خدا خدا کر کے حیدر آباد پہنچے۔ حاکی صاحب اور میرن صاحب تو کاری ہمان تھے۔ لا جواب جو ٹی گارڈی میں سوار ہونے نظام کلب کے قصر کی طرف فراہم ہجرتے ہوئے روانہ ہوئے۔ ہمارے لیے کو تلاوت علی پاشا جواب تلاوت جنگ بہادر ہیں ان کی ٹوٹی بھوٹی بردم گاڑی۔ اس میں مریل گھوڑا جتا ہوا حاضر تھی ہم سچھ کرتے ان کے گھر پہنچے۔ گھر بھی کہنہ اور فرسودہ۔ باپ دادا کے وقت کا بہا یہ گھر کہاں نظام کلب۔ مگر یہاں الفت دصلاح تھی اور وہاں جاہ دفللاح۔ خود سمجھے لیجئے کس کو ترجیح ہے۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ ان آنکھوں نے اب اس گھر کو بھتی ہوتی۔ اب پا تھیوں کی جگہ موڑیں ہیں اور روشن چوکی کی بجائے اس کے ہارن یہی حضرت ہیں جن کی خاطر حیدر آباد کا سفر اختیار کیا تھا۔ اور کرتا رہتا ہوں ورنہ میں کہاں اور حیدر آباد کہاں۔ اس شہر سے الفت ضرور ہے۔ شباب نہیں

گزرا تعلیم و تربیت ہیں کا طفیل ہے مگر سوائے ان کے کسی اور ذات سے خاص تعلق نہیں۔ بہاں کا ایک اور واقعہ ہے۔ چونکہ حالی صاحب کا ہمسفر تھا لازمی تھا کہ کم سے کم ایک مرتبہ تو ان کے فرودگاہ پر حاضر ہو جاؤں۔ میں گیا تو وہ خانہ باع میں چبوترہ پر تشریف فرماتھے۔ اور ایک نزدیک اپار کے صاحب ہیں۔ یہ صاحب ریاست میں ملازم تھے۔ پھر ملازمت ترک کر دی۔ الحمد للہ اب بھی بقید حیات ہیں قلم و نشرونوں کے ماہر ہیں۔ اپنا جواب نہیں رکھتے۔ ساتھ کے ساتھ بد تیزی میں بھی لیگانہ روزگار ہیں۔ میں نے حالی صاحب سے کچھ کہا۔ پہلی ہی ملاقات اور فوراً اختراض جڑ دیا۔ شاید دہلی والوں سے بدول ہوں گے۔ حالی صاحب سے اپنے اختراض پر تائید چاہی۔ میں نے صرف اسی قدر جواب دیا۔ کہ دہلی کا محاورہ یہی ہے۔ چونکہ حلی ہی مخاطب تھے۔ فرانے لگے۔ آپ یہ کیا فرماتے ہیں۔ یہ اس خاندان کا آدمی ہے کہ اگر غلط بھی بولے تو میں اُسے صحیح تسلیم کر لوں گا اور اپنی زبان کی اصلاح کروں گا۔ میں تھوڑی دیر مبھیار ہا۔ مگر ان صاحب کی صحبت سے کبیدہ خاطر کچھ دیر بعد اجازت طلب کرنے پر رخصت کر دیا۔

وافعات تو بہت ہیں مگر بیان کا یار انہیں دل امنہ اچلا آتا ہے۔

خواجہ عبد الجید ڈہلوی

شمس العلماء مولانا مذیر احمد ہلوی

من اس سو تین یا چار کا ذکر ہے کہ لاہور میں حاجی شمس الدین کی طرف سے ایک لمبا چورا اشتہار جا بجا چپا ہوا اور تقسیم بھی۔ اس کا عنوان تھا "انجمن حمایت اسلام کا سالانہ جلسہ"۔ ایک اشتہار چلتے پھرتے کہیں کسی نے ہمیں بھی دے دیا۔ پڑھاتو معلوم ہوا کہ بہت سے اکابر قوم اس جلسہ کی شرکت کی غرض سے باہر سے بھی آ رہے ہیں۔ انھیں میں ایک نام شمس العلماء مولوی حافظہ داکٹر نڈیراحمد صاحب ایل۔ ایل۔ ڈی۔ او۔ ایل مرحوم کا بھی تھا۔ ساتھ ہی یہ بھی لکھا تھا کہ مولانا حسب سہول تقریب بھی کریں گے مولانا کے نام اور کام سے ہم پہلے سے آئنا۔ تھے۔ تقریب سنتے کا بھی کچھ اتفاق نہیں ہوا تھا۔ شہرت البیتہ سنی تھی۔ بڑے شوق سے جلسہ کی تاریخوں کا انتظار کرنے لگے۔ اور وقت پر پر گرام بھی منگایا۔

اس زمانہ میں لاہور کا اسلامیہ کالج جو آجکل کی طرح انہیں حمایت اسلام کی ایک کمیٹی کے ہاتھ میں تھا "شیر انوالہ" دروازہ کے قریب واقع تھا۔ اور کالج کی اگنانی جس کے ہر چار طرف دو منزلہ عمارت کھڑی تھی۔ اپنی خاصی وسیع تھی۔ اس میں انہیں کا یہ سالانہ جانشہ ہوا کرتا تھا۔ اور کالج کے لئے چندہ جمع کیا جاتا تھا۔ کالج کا دارود مہا بہت کچھ اسی چندہ پر تھا۔ اور لاہور میں مشہور تھا کہ انہیں میں چندہ برسا کرتا ہے۔ مولانا مذیر احمد کی تقریب اور علامہ سردار اکٹھ محمد اقبال کی نظر پر۔ اقبال مرحوم اس وقت تک نہ داکٹر تھے۔ نہ سر نہ علامہ تاہم ان کا آغاز انجام کی پیشین گوئی کر رہا تھا۔ آخر

میں باری آیا کرتی تھی۔ مژا ارشد گورگانی کی رباعیات اور نسخات کی اور وہ بخوبی کے لئے لوگوں کی حسین جھوار لیا کرتے تھے۔ اسی لئے وہ ان حلبوں میں جیت کر بیکھراتے تھے۔

غرض حلبوہ کی تاریخ آئی اور تین دن کے تین جلسے قرار پائے۔ پہلے دن کے اجلاس کے وسط میں ڈاکٹر سر محمد اقبال مرحوم نے غزل کے انداز میں ایک قومی نظم پڑھی۔ ”ہوتی آئی ہے کہ اچھوں کو بُرا کہتے ہیں“ ہر طرف سے واہ۔ وادہ جزاں اللہ اور سبحان اللہ کی صدائیں گرج بن گر گوئیں۔ روپے کا بیہہ برستے لگا۔ اور ایسا برسا کہ جھڑی گاٹ گئی۔ دوسرا دن ٹھیک پہلے دن کی طرح کوئی گیارہ بجے کے قریب مولانا نذیر احمد مرحوم کی باری آئی۔ ہم نے انھیں کبھی دیکھا نہ تھا۔ آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر اسٹیچ کی طرف دیکھنا شروع کیا۔ دفتار دیکھا کہ اسٹیچ کے ایک طرف سے سرخ نیزہ ذری بانات کی تھی ایک گول ہول پری کی چٹ اپنی جگہ سے ہلی اور چشم زدن میں اسٹیچ کے وسط میں میز کے قریب آٹھھیری۔ آنکھ مل کر دیکھا تو یہی ڈاکٹر مولوی حافظ نذیر احمد دہلوی تھے۔ چیرڑکارہ رہ کر وہ شور ہوا کہ کان کے پردے پھٹنے لگے۔ اب جو دیکھا تو تو مولانا دنوں ہاتھ پھیلاتے کھڑے ہیں۔ اور ہاتھوں سے بس بس کا اشارہ کر رہے ہیں۔ ایں۔ ایں۔ دُی کے سر پر چٹی سے گوشہ سرخ بیرہمی ٹوپی ہے۔ اور بدن پر ڈھیلی ڈھالی گھیردار تھیلا سی آستینوں کی لال گادن مولانا کا پستی مائل قد۔ اس پر یہ سر سے پاؤں تک لال لال محبوں جمال صورت حال بالکل یہ ہو گئی جیسے کسی نے بھیر دل جی کی موت سے پردہ ہٹا دیا ہو۔ مگر آواز جو گرج بن کر میز کے قریب سے اٹھی دہ یہ تھی۔ اسلام علیکم درحمۃ اللہ و برکاتہ۔ حضرات آپ اور آپ کے پیکر ڈری

صاحب حاجی شمس الدین سال پر سال مجھے جلسے کی دعوت صحیح دیتے ہیں جواب دیتا ہوں بشرط فرست آؤں گا۔ وہ اکٹ پنچھا ہے۔ شرط کی صحیح نہیں ضرور آنا پڑے گا۔ ابھی جلسے میں دن باتی ہوتے ہیں خطوں کا تاریخ بندھ جاتا ہے کس دن آئیے گا۔ اور کس وقت آخزماء کھڑک کرنے لگتے ہیں۔ اگر آپ نہ آئے۔ انہم اور کام کی بدحالی کا مطلع کس پر ہوگا۔ قہر و دشیں بجان و رویش۔ چلا آتا ہوں کہ کام کی بجائی اور انہم سے تعلق خاطر ہے۔ مگر میں بیزار ہو کر ایک دفعہ پنجاب سے بھاگ چکا ہوں۔ اب انہم سے بھی بیزاری کے اسباب پیدا ہوتے جاتے ہیں۔ بس اب میں نہ آیا کروں گا۔ ہرگز نہ آیا کروں گا۔ اور پچھی پات یہ ہے کہ اب میرے آنے کی ضرورت بھی باتی نہیں رہی ہے۔ سر محمد اقبال وغیرہ کی طرف اشارہ کرتے ہوتے ہیں۔ اب یہ لوگ میرا کام کر لیتے ہیں۔ اس پر چاروں طرف سے شور ہوا۔ نہیں نہیں یہ آپ کیا فرمائے ہیں۔ جی نہیں میں صحیح کہتا ہوں اور بالکل صحیح۔ آپ نے دیکھا نہیں میں ولی سے چل کر آیا ہوں۔ از خود نہیں۔ بار بار کے اصرار پر آیا۔ اپنے بہت سے کام جھپوڑ کر آیا۔ مگر میرے لئے آپ کے سکرٹی صاحب نے وقت رکھا ہے چالیس منٹ۔ یعنی اونٹ کے منہ میں زیر اجلاس اس وقت میں میرا کیا کچلا ہوتا ہے۔ بعض لوگ کہیں گے اور ضرور کہیں گے۔ آپ کا کچھ تو جھپچا ہوا ہوتا ہے۔ نقیم ہونے پر خود پڑھ لیں گے۔ بجا ہے۔ جیک گھپچا ہوا میرے ساتھ ہے۔ لیکن میری مرضی یہ نہیں۔ خود آپ کے اصرار سے۔ مانا کر دہ نقیم ہو گا۔ لوگ اسے پڑھیں گے بھی۔ لیکن کیا میں کبھی پاندھ رہا ہوں۔ کہ جو کچھ لا اؤں دہی پڑھوں بھی۔ دری زبان سے کہوں بھی۔ لیکچھر گھر پر لکھتا ہوں۔ بیان آتا ہوں۔ جو مناسب وقت ہوتا ہے کہتا ہوں۔ فرض کر لیجئے کہ جو کمہ کر لایا ہوں دری

وہی زبان سے کہوں بھی لیکن میرا چھپا ہوا لکھ رہا ہے وائے میری زبان میرا بیان
میری آدا نہ میرا انداز کہاں سے لائیں گے۔ کیا وہ بھی میرے چھپے ہونے لکھر
میں فل سکتا ہے۔

۵ کہاں سے لائے گی ملبل زبان میری ہن میرا
آپ نے ذوق کا شعر سنانہیں دیکھنا کیا خوب ہے۔ واقعہ کی تصور کھجھ
دی ہے۔

نگہ نہیں حرث دل نشیں تھا دہن کی تنگی سی تنگ ہو کر
جو لکھا آنکھوں کے راستے سو تو دل ہیں مجھی خذگ ہو کر
مولانا نے یہ شعر کچھ پس انداز سے پڑھا کہ تمام جلسہ یاک زبان ہو کر آہا ہا کر تارہ گیا۔
ہم نے یہ شعر پہلے بھی پڑھا تھا۔ اب بھی یاد آ جاتا ہے۔ تو زبان سے بھل جاتا ہے۔ لیکن جو
لطف اس دن مولانا کی زبان سے سن کر پایا وہ کچھ اور سی تھا اور کسی طرح نہیں بھولتا
مولانا کی وہ گرج دار آواز اور اس کی لچک آج تک کانوں میں گونج رہی ہے۔ اور
ذر اجنبش ان کے ہاتھوں آنکھوں۔ اور سرد گردن کی اب تک آنکھوں میں
پھر رہی ہے۔

اب مولانا نے جو دیکھا کہ لوگ شعر سے مشاہر ہوئے۔ جھجٹ شعر اور حقیقت کی
بجٹ شروع کر دی اور حقیقت کو شعر سے بڑھ چڑھ کر دکھایا۔ اور اپنی تصریح کے مقصود
کا مسلسلہ چاپ کرنا۔ کہیں تھے اور کہیں جانکے اور مسلمانوں اور کالج کے حال کی سچی پچی
باتیں کہہ کر عقل و جذبات دونوں سے کچھ اس طرح اپیل کی کہ جو کچھ دینے والے نہ
تھے یا ساتھ لے کر نہ آئے تھے۔ وہ بھی نقد نہیں تو وعدہ دے کر اٹھے۔ مولانا نے وقت

ختم ہونے پر اپنا بیان ناتمام چھپوڑا اور اپنی جگہ پر آ جیئے۔ لوگ پکارنے لگتے ہیں فرماتے جائیے۔ فرماتے جائیے۔ جن کی پاری بولنے کی آنے والی تھی۔ وہ کہتے ہیں ہمارا وقت حاضر ہے۔ اب مولانا کس کی سنتے اور مانتے والے تھے۔ جانتے تھے جو کام کرتا تھا کہ جکے۔ کچھ ریشم پر نہ آنا تھا نہ آئے۔ اپنا مضمون چھپا ہوا تقسیم کر دیا اور کہہ دیا اب اسے پڑھلو۔ پڑھاتو اس میں اور تقریر میں زین آسمان کا فرق تھا۔ یوں ہمیں مولانا کا دور سے دیدار ہوا۔ اب ملاقات کا حال سنئے۔

۱۹۰۷ء میں سینٹ اسٹیفسن کالج دہلی میں عربی کے پروفیسر کی ضرورت ہوئی اخبارات میں اشتہار لکھا۔ ہماری درخواست لا ہور سے ہمارے ایک شاگرد نور محمد نے ہمیں مجبور کر کے دہلی بھجوائی۔ یہاں دہلی میں کالج کے پرنسپل سٹرائیڈ روز گیا مولانا کے مرید تھے۔ درخواستیں آئیں تو انتخاب مولانا کے پسرو ہوا۔ مولانا کا فرعہ انتخاب ہمارے نام پر آیا۔ پرنسپل اور آنہماںی لا ہور پہنچے۔ اور رنگ محل ہافی اسکول سے فوراً اولیور کر اکے ہمیں ولی لے آئے اور کہا مولوی صاحب سے جا کر ملنا چاہیئے ہم ملتے تو ضرور۔ مگر اب جلدی کی مئی کا نہیں۔ تو ارکا دن۔ کوئی دس بجے کاعمل ہو گا کہ ہم مولانا کے ہاں پہنچے۔ خدمتگار نے کہا اور پرس۔ مددانہ سے چڑھے چلے جاؤ۔ ہم اوپر پہنچے۔ مولانا سے ملے بمحبت سے پیش آئے۔ اپنے انتخاب کرنے کا ذکر نہ بان پر نہ لائے۔ ہم نے خود شکریہ ادا کیا کہ اسکوں چھپا دیا اور کالج میں پہنچایا۔ اونہی کے اور حق بحقدار کہہ کر خاموش ہو گئے۔ مگر پان پتے کی بات تک نہ پوچھی۔ آگے جا کر معلوم ہوا کہ یہی ان کے ہاں کا دستور تھا۔ اس میں خاص بے التفافی کاشا بہ شہ تھا۔ کچھ دیران کے پاس ٹھیرے۔ ادھرا دھر کی باتیں بھی کیں۔ مگر حیران تھا کہ

الشیعہ دہی ڈاکٹر مولوی حافظ شمس العلماء ایل۔ ایل۔ ڈی نذیر احمد ہیں جن کو لاہور میں اس بھٹکاٹ اور عجیب و غریب لباس میں دیکھا تھا۔ تو قعہ تھی کہ دلی میں انھیں اپنے گھر کے اندر رُغرا دے۔ بیٹے کرتے اور دوپلو ٹوپی میں تو دیکھیں گے۔ بیباں پہنچے تو ان کو دیکھ رہے ہیں کہ ایک نیلا میلا نہ ہد کمر پر لپٹا ہوا ہے۔ باقی پنج نگہ مہنگے نہ گلے میں کرتا۔ نہ سر پر ٹوپی۔ کمرے کے پہلو میں ایک بیلی سی دری ہے۔ سامنے مہمی لمبی مدارس کی سی پتائی ہے۔ اور بس۔ کمرے کو جھانکنا تو وہ بھی فرنچیز سے خالی۔ اگر میں ان کو لاہور میں نہ دیکھو چکا ہوتا تو دیکھ کر خیال بھی نہ آتا کہ یہی جناب وہ ڈپٹی نذیر احمد ہیں جو ایل۔ ایل۔ ڈی میں شمس العلماء ہیں۔ جید ر آباد سے میں قرآن پشن پلتے ہیں۔ بڑے مصنف ہیں اور تصنیف و تالیف سے لاکھوں روپے کا جیکے ہیں۔ پار بار مولانا کے ہاں جانے اور ان سے ملنے اور باتیں کرنے کا اتفاق ہوا جب کہ میں سمجھنے کہ موقع تکلف پر بھی مولانا اگر کچھ تکلف کرتے ہیں تو اہل تکلف کی خاطر دور نہ وہ نہایت سادہ زندگی کے دل دادہ ہیں۔ خاص کر اپنے گھر میں۔

ذوق کا تھایا نہیں بلکن ان کا صر در پہی سماں ہے ۷

اسے ذوق تکلف میں ہے تکلیف سراسر

آرام سے وہ ہیں جو تکلف نہیں کرتے

یہ تماشا میں دیکھو چکا۔ اجازت چاہی۔ فرمایا۔ بیٹھو۔ ایسی جلدی کیا ہے۔

مجھے دو باتیں کہنی بھی ہیں۔ اول یہ کہ ٹاؤن ہال میں ہم نے اور ذکار اللہ نے تمام ان کا تمنے سا ہو گا اور چند اور لوگوں نے کوشش کر کے پبلک لائبریری کی کھولی ہے۔ لمحیں بھی اس کا ممبر ہونا چاہیے۔ پانچ روپے سالانہ اس کا چندہ رہے۔

پچھے زیادہ نہیں۔ ہم مشی ذکار اللہ روزانہ شام کو لا سُبْرِی میں جمع ہوتے ہیں آج محل گرمی ہے جو چھت پر بیٹھا کرتے ہیں تھم بھی آیا کرو۔ تفریح ہو جایا کرسے گی۔ اور لوگوں سے ملاقات بھی۔ ایک منعقد دو کاچ لوگوں سے ملنا جانتا اچھی بات ہے خاص کر تھم سے نوجوانوں کے لئے میں نے کہا۔ بہت خوب۔ ارشاد کی تعمیل کر دیکھا یہ سن گر تفریما یا دوسرا بات یہ ہے کہ مجھے معلوم ہو چکا ہے کہ کالج کے طالب علم تھم سے مطمئن ہیں تاہم اگر کچھی مدد کی ضرورت ہو تو میں تھماری مدد کو موجود ہوں۔ تکلف نہ کرنا! میں نے کہا "گرم اور حنایت" بولے اچھا خدا حافظ، مگر ہاں۔ ملتے رہا کرنا میں نے کہا انشا، اللہ کل ہی لا سُبْرِی میں حاضر ہوں گا۔ دوسرا دن ہی لا سُبْرِی کا میں ممبر بن گیا اور ٹاؤن ہال کی چھت پر بیٹھا۔ یہاں مولوی ذکار اللہ خاں۔ رائے پہاڑ پیارے لال اور مولوی سعید الدین وکیل پہلے سے موجود تھے۔ اور یہ سب میرے لئے بالکل صنبی تھے۔ مولانا نے خود بالفاظ مناسب ان سے تعارف کرایا۔ ہم اپ اکثر اس صحبت میں جانے لگے۔

یہ صحبت بھی عجیب صحبت تھی۔ یہی چار پانچ آدمی اس میں آتے تھے۔ مگر اشان سے کہ نہ کوئی کسی کی تعظیم کو اٹھتا ہے۔ نہ کوئی مزاج پر سی کرتا ہے۔ میں البتہ اس باب میں مستثنے نہ تھا۔ مجھے بھی مشی ذکار اللہ خاں نے اس ادب آداب سے روکنا چاہا۔ مگر مجھے سے یہ نہ ہو سکا۔ بلکہ مولوی سعید الدین صاحب بھی دو چار روز میں میرے شرکیں حال ہو گئے۔ باقی بوڑھے اپنے حال پر رہے۔ آئے اور بیٹھیں گے۔ اور پائیں شروع ہو گئیں مغل و معموقوں ہونے لگا۔ مگر ہمارا قدم شاید مبارک نہ ہوا مولوی سعید الدین احمد صاحب جلدی ہی جج یا پچھا اور ہو کر گواہیار چلے گئے۔

پھر اسے بہا اور کو ضعف پیرانہ سالی نے خانہ نشین بنادیا مولانا اور مشی صاحب بھجو
لگ بھگ ان ہی کی عمر کے تھے رفتہ رفتہ دہ بھی آخر بیٹھ رہے۔ ان کی قائم کی
ہوئی لا بربی اب ہار ڈنگ لا بربی ہے۔ لیکن وہ صحبت دہ لوگ اور ان کی وہ
بائیں کہاں جنہیں تاریخ فلسفہ اخلاق بیاست مذہب ولا مذہبی تحقیق و تنقید
کسی کی شناصحت کسی کی ہجود مذمت غدر کے حالات انگریزوں اور بندوں
کے مقالات جگتی کے ساتھ آپ بیتی کہا نیاں عرض نہ نئی درستائیاں
ہوتی تھیں اور کسی طرح ختم نہ ہوتی تھیں۔ اکثر کوئی داستان پاسان کہتے اور
آخر میں ایک ٹھنڈی سانس لیتے اور اس پر مستزا کرتے۔ خواب تھا جو کچھ کہ دیکھا
جوتا افسانہ تھا۔ آج ان کی باتیں عیسیٰ برس ہی میں ہمارے لئے افسانہ
ہو گئی ہیں۔

مرنے سے دو ڈھانی برس پہلے تک بالا ہم مشغولیت دو ایک سجن جما سہ
و غیرہ کے طلباء مدرسہ فتحپوری و دیگر مدارس عربیہ کے ان کے ہاں برابر
ہوتے رہے۔ غریب اور ڈھنی طلباء سے بہت خوش رہتے۔ ان کی مد و بھی کرتے
اور اکثر ان سے کہتے ہیں نبھی کئی برس تک مسجد کے جھرہ میں رہ کر اور پنجابی کڑہ
کی روٹیاں کھا کھا کر پڑھا تھا۔ دہلی کالج میں داخل ہونے پر چار روپے
و نیپھہ ہوا تو ان ٹکڑوں سے نجات ملی۔ محنت کرو محنت ہمیں جو کچھ آیا محنت
اور شوق سے آیا ہے۔ بہت دنوں تک ایک خارجی سجن کی خاطر کتاب ہاتھ
میں لئے مولوی ملوک العلی کے ہوا دار کے ساتھ دوڑا ہوں۔ ٹھوکریں
کھا کھا کر گرا ہوں۔ یہ دیکھو گھنٹوں اور کہنیوں پر زخموں کے اب تک نشان

موجود ہیں۔ پہ کہتے اور روپڑتے۔ لوگ امیر ہو کر اپنی سابقہ غربت و فلات کو
چھپایا کرتے ہیں۔ مگر مولانا اس کا مبالغہ سے اظہار کرتے۔ خواہ نخواہ نہیں بلکہ
اس لئے کہ لوگ ان کے حال و قابل سے سبق لیں۔ غرض خدا بخشے بہت سی خوبیاں
تحییں مرنے والے ہیں۔

مولوی عبد الرحمن وہلوی

پنڈت برج نرائیں چکبست لکھنؤی

شاعر ہو یا ادیب۔ ریفارمر ہو یا فلسفی۔ کوئی بھی اس ماحول سے مشاہر ہوتے پیغیر نہیں رہتا جس میں اس نے آنکھ کھولی ہوا اور نشوونما پائی ہوا درجہ درجہ شخص اس ماحول کی اصلاح اور اس میں انقلاب برپا کرنے کے درپے ہو جاتا ہے۔ چکبست جن کے انتقال کو تیرہ برس کچھ ہینے ہوتے ہیں پیدا تو فیض آباد میں ہوئے تھے۔ مگر انہوں نے لکھنؤ میں ہوش بینحالا اور وہی تعلیم و تربیت پائی۔ مختصر یہ کہ، کچھ سے آخر وقت تک وہ لکھنؤی میں رہے۔ اُس وقت ہر دوسرے پرانے شہروں کی طرح لکھنؤ کی اخلاقی اور سماجی حالت عموماً وہی تھی جو ایک پرانی تہذیب اور تمدن کے انتزاع اور زوال کے زمانہ میں ہوا کرتی ہے۔ ایسی ہی حالت کا خاکہ حالی مرحوم نے اپنے مسدس میں اور سرشار مہر دنے پیر کہار وغیرہ میں اپنے اپنے طرز پر آثار رکھے۔

غرضکردہ جس وقت چکبست نے ہوش بینحالادہ پرانی تہذیب اور لکھنؤ کی تعمیر اور آرائیگی میں اہل وطن کی صدیاں صرف ہوئیں۔ چراغِ حری سے زیادہ نہ تھی۔ سماج زوال کے گھرے گڑھے میں گر کر جن علیبوں اور جگرے شغالوں کا شکار ہو جاتا ہے وہی حال پہاں اکثر اہل ملک کا تھا۔ جو شغل پہلے کام کے بعد تفریح اور استانے کے طور پر ہوا کرتے تھے۔ اب انہوں نے اداۓ فرض کی جگہ رے لی تھی۔ اور رات دن کا مشتمل ہے گئے تھے۔ قوم کے پشاں اور

و طیرے چک بست کونہ آنے تھے نہ آئے۔

خوش شہرتی سے چک بست معزز اور علم و درست خاندان میں پیدا ہوئے تھے۔ چنانچہ ان کے والد پنڈت اوت نرائیں اچھے شاعر تھے جن کا یہ شعر یاد ہے

اللہ اللہ رے اثر نالوں کا یترے ملیل
پردہ خاک سے گل چاک گریاں نکلا

اس سے پڑھ کر حسن اتفاق سے ان کا خاندان ایسے فرقہ کا رکن تھا جو مجھے یہ کہتے ہیں تاکہ نہیں کہ علم و فضل اور کلچر کے لئے مشہور ہے۔ مختصر یہ کہ چک بست نے پہلے آس پاس کی خدمت کی طرف توجہ کی۔ یعنی اپنے ہم کفروں کی شہری پنڈت نوجوانوں کی اصلاح و ترقی کی طرف متوجہ ہوئے۔ چونکہ عمل کا جذبہ ابھی سے ان کے دل و دماغ میں جوش مار رہا تھا۔ اخفوں نے سن ۱۹۴۶ء میں جبکہ ان کی عمر صرف بائیس ۲ برس کی تھی۔ ایک اجنبی کشمیری نیگ میں زیارتی ایش کے نام سے قائم کی۔ یہ ایسوی ایش بارہ برس تک کام کرنی رہی۔ پہلے کار رشا غل بخت کلامی۔ انقطار علیم اور فضول مسٹر گشت سے کامل پرہیزاں اجنب کے مہر ہونے کی پہلی شرط تھی۔ مخبر اخلاق باتوں اور بُرے اشغال کے عوض اس اجنب نے معصوم تفریح کے سامان بسطالیع اور مباحثہ کے موقعے اور تبدیل خیال کے مستحسن ذریعے ہبیا کئے تھے اس اجنب کی نسبت چکبست نے کہا ہے۔

جمیعت کے چمپن میں مجمع احباب ہتا ہے
یہی جمیعت اسی دنیا میں ہم آباد کرتے ہیں

اس نوجوان کے ایشارہ جذبہ شوق اور جانشنازی کا اندازہ کیجئے جس نے لوگوں کی خدمت میں اپنی جان دکھلادی۔ اسی انجمن کے آٹھویں سالانہ جلسہ میں چک بست نے ایک منظم پڑھی جس کا یہ بندول میں کھبہا جاتا ہے۔

قوم میں آٹھ برس کر ہے یہ گلشن شاہ ۔ چہرہ گل پہمان پاس اوپے ہر نقاب میرے آمینہ دل میں ہی فقط اس کا جواب ۔ اس کے کامنوں پر کیا میں نے شار اپنا شباب کام شہنم کا لیا دیدہ تر سے اپنے ۔ میں نے سنبھا ہے اسے خون جگر سے اپنے چکبست ایک شاعر کی حیثیت سے د اخی زنگ کے بادشاہ تھوڑے وجوہ کھیلا لاؤ جذبہ بات کا جوش و خروش ان کی فطرت میں بے حد تھا ۔ اس میں شک نہیں کہ خارجی منظر لگا ری میں بھی وہ کسی سے ہمیٹے نہ تھے ۔ کہنا یہ ہے کہ چک بست کا شعور، اتنا دیسیح تھیں اتنا بلند اور ذہن اس قدر ہمہ گیر تھا اور وہ اتنے زبرد صاحب طرز تھے کہ کوئی چیز کوئی منظر ان کی حالتہ طبع سے رنگ لئے بغیر نہیں رہ سکتا تھا ۔ سنیجے بہتوں کو پہاڑی سفر کے موقعے پیش آئے ہوں گے ۔ اور انہوں نے کوہستانوں میں جگہ جگہ چھپے اور آہشاریں دیکھی ہوں گی ۔ یہ منظر ایک خارجی موصنوع ہے ۔ اسی کا نقشہ کشمیر سے متعلق یوں آتارتے ہیں ۔

چھپے چھپے ہے مرے کشمیر کا ہمانع از ۔ راہ میں سوکھی چانوں نے دیا پانی مجھے وہ تلاک یا گوکھلے کی رحلت پر نوحہ ہو یا شاعر کی طرحی غزل ۔ رامان کا ایک سین ہو یا آصف الدولہ کا امام بارڑا ۔ ہر نظم میں آپ جذبات عالمہ کا ایک ہی تلاطیم اور احساسات و لطف کا دہی ہیجان پا میں گے یہ ہے

ایک شاعر اور مصنف کی حملی انفرادیت، فارسی کی ایک مشہور کہاوت ہے کہ بزرگی عقل است نہ ہے سال یعنی بزرگ و شخص ہے جو عقلاً مند ہو۔ نہ کہ صرف بوڑھا ہو۔ چک پست جس عمر میں ہم سے آمیشہ کے لئے جدا ہوئے اس عمر میں اس کا توذکرہ کیا کہ کوئی ادب کے اتنے شاہکار نظم اور نثر میں جھپوڑھائے عموماً ادبی نذاق کی پنچھی بھی مشکل سے ہوا کرتی ہے۔ لیکن مرحوم سے قدرت کو تھوڑی مدت میں بہت سے اور بہت بڑے کام لینے تھے۔ اور اس نے دہ کام لئے۔ ایک وقت چک پست کی زندگی میں جلدی سے ایسا آگیا جس نے انھیں اس وقت کے اعلیٰ ادیبوں اور نقادوں کی صفت اول میں لا بھایا۔ یہاں گلزار نیم کے چکبستی اڈیشن سے متعلق اس مناظرے کا تفصیلی ذکر نہیں کیا جائے گا جو ایک سال سے زیادہ عرصہ تک جاری رہا۔ یہ کتاب کی شکل میں ”معز کے چکبست و شرود“ کے نام سے جھپپ گیا ہے۔ کہنا صرف یہ ہے کہ اخترانوں کے جو جواب چکبست نے دیئے ان کا پایہ تحقیق و استدلال میں اتنا لائز نہ تھا ان کے مخالف بھی حیران رہ گئے۔ جب یہ ادبی صعر کہ ختم ہوا تو چکبست کے تعاملات شرود مرحوم سے دیے ہی ہو گئے۔ جیسے پہلے تھے۔ وجہ یہ کہ چکبست کے فراج یہ چہاں راستہ بازی کے ساتھ عیزت اور خودداری کوٹ کوٹ کر بھری تھی وہاں صلح پسندی اور رداداری کی بھی کمی نہ تھی۔

چکبست نہ صرف طرزِ کلام و اسلوب کے لحاظ سے آجکل کے اکثر شاعروں سے ممتاز ہیں بلکہ اخلاق اور طبیعت کے اعتبار سے بھی۔ یہاں باہر کی دو پائیں ضرور ہی پڑتی ہیں۔ آج کل شاعر ایک تو تخلص کے ساتھ اپنے نام کے

اٹھارا اور اعلان سے نہایت پرہیز لکایہ نفرت کرتے ہیں۔ یہاں تک کہ بعض اوقات لڑپڑتے ہیں اگر ان کے نام کی اشاعت کی جائے۔ چک بست نے سرے سے تخلص رکھا، ہی نہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اکثر شاعر اپنے استاد کا نام ظاہر کرنے سے سخت پرہیز کرتے ہیں۔ اس پارے میں چکبست کا طرزِ عمل اپنے ہم عصروں سے الگ تھا۔ پنڈت بنی زران در تخلص آبرکھنؤی کے مشورے اور صحبت سے انہوں نے بہت فائدہ اٹھایا۔ انھیں کی شان میں کہا ہے۔

کیا زمانے میں کھلے بے خبری کامیری را
طائر فکر میں پیدا تو ہوا تی پرداز
کیوں طبیعت کو نہ ہوئے خود می شوق پہنا
حضرت آبر کے قدموں پہ ہے یہ فرق نیاز
فخر ہے مجھ کو اسی درسے شرف پانے کا
میں شرابی ہوں اسی رند کے میخانے کا
آج ایسا شاعر کون سا ہے جو اپنے استاد کی وفات پر یوں مبنی کرے۔
ع ہم کو معلوم ہوا آج متینی کیا ہے۔

جیسا کہ چکبست کے کلام میں لفظوں کا گور کھو دھندا تشبیہ اور استعارہ کی بھرمارا اور بلند آہنگی کا نام نہیں اسی طرح ان کی پلک نندگی ہنگام پرستی اور سماں بند عنوانیوں سے پاک رکھتی۔ ان کے زمانے میں وطن میں بیداری اور اہل وطن میں سیاسی گرجوشی پیدا ہو گئی رکھتی بلکن وہ اعتماد اپندوں ہی کے حلقوں میں رہے اگرچہ وطن کی محبت اور ابناۓ وطن کی خدمت کا جوش ان کے دل میں بھرا ہوا تھا۔ کہا ہے

ہم پوچھتے ہیں باغ وطن کی بہار کو
ستکھوں میں پیچوں کجھتے ہیں خاکو
روشن دل دیراں ہے محبت کو وطن کی
یا جلوہ مہتاب ہے جڑے ہوئے کھریں
وطن کے عشق کا بت بے نقاب نکلا ہے
نے افق سے نیا آفتاب نکلا ہے
وہ انھیں خیالات کو جھیں رٹے سیاس اور مدبر تسروں میں لے کر وطن
کی خدمت کے لئے کربانہ کر کھڑے ہو گئے تھے۔ شاعری کا جامہ پہنا کر ایسا مفہمد
منونہ کلام حچور گئے جو مدت توں تک پادگار رہے گا۔ آگے کہا گیا ہے کہ وہ ماڈرٹ
یعنی اعتدال پسند سیاسی طبقے کے ہم خیال تھے اور انگلستان سے قطعی تعلق کے
حاملی نہ تھے چنانچہ کہتے ہیں

بڑھانیہ کا سایہ سر پر قبول ہو گا
ہم ہوں گے عیش ہو گا اور ہوم روں ہو گا
چکبست کا ذہب اور برماد شعر کہنے ہی میں نہیں بلکہ علی زندگی میں بھی
تلی اور مذہبی تحصیل سے آزاد تھا۔ ان کی طبیعت کی انسادی کچھ ایسی پڑی تھی
ان کی شاعری کے اہم ای زمانے کے یہ اشعار سنئے۔

ہر ذرا خاکی ہے مر امونس دہدم
دنیا جسے کہتے ہیں دہ کاشانہ ہے میرا
جس چاہو خوشی دہ ہو مجھے منزل راحت
جس کھر میں ہو ما تم دہ عزما نہ ہے میرا
جس گوشہ دنیا میں پرستش ہو وفا کی
اگرچہ چکبست کا کلام ادبی محاسن سے مالا مال ہے لیکن انہوں نے دو لینے
یا شاعر کہلانے کے لئے کبھی شعر نہیں کہا۔ جس بات کی لکھ کے لئے ضرورت
بسمجھی اسی کو شعر کا موصوع بنایا۔ شاعر کی حیثیت سے اگر وہ ایک باوقت انفرادی
کے ہاں ہیں تو ایک مصلح کی حیثیت سے ان۔ کے کلام کی افادیت عالمگیر ہے۔

لکھنؤ جو غزل کا فریفہ تھا وہاں نے طرز کی نظم اور نئے خیالات کو ہر دل عزیز بنا کیا۔ انھیں کا کام تھا۔ چکبست کی شاعری صرف قایم نہ پہنچانی نہ تھی۔ یہی نہیں کہ انھوں نے آتش اور اینس کے رنگ کو تازہ کیا اور دہلی کے اس خارجی داخلیت کے طرز کی جس کی بنیاد پیغامتہ اور غالب نے ڈالی اور عزیز مرحوم نے اس سے لکھنؤ کو شنا سا کیا تھا بہت ترقی دی بلکہ حآلی کی پیروی میں شعر سے کام لیا۔ چکبست کی شاعری ایک پیغام لے کر آئی تھی۔ اور وہ پیغام ہے حب وطن اور مخلصانہ رواداری۔

خلاص اور دوستداری چکبست کے خمیر میں تھی، ادبی مباحثہ میں وہ جتنے زیادہ سخت گیر تھے اتنے ہی ہمدردی میں نرم دل، یہاں ایک واقعہ ذکر کے قابل ہے۔ میرا لکھنؤ جانا ہوا۔ اودھ پنج کے مشہور زمانہ ایدھیر منشی سجاد حسین آخری بیماری میں مبتلا تھے فماج گرچکا تھا اور بات کرنے میں ان کو بہت تکلیف ہوتی تھی۔ میں منشی صاحب کی مراجع پرسی کو گیا۔ چکبست میرے ساتھ تھے۔ خیر منشی صاحب علاج اور معالج دونوں کی ناکامی اور دوسرے سے بیزاری اور صحبت یا یہی سے مایوسی کا انٹھا رکر چکے تھے۔ کہ ملازم دوالا یا۔ انھوں نے پی لمبی میں سکرا یا مرحوم غضب کے رہنماس تھے۔ تاریخ گئے کہ میرے قبسم کے یہ معنی ہیں کہ جب کوئی علاج فائدہ نہیں کرتا اور دوکے اثر سے قطعی مایوسی ہے تو پھر بد ذاتی دوامیں پی کر کیوں طبیعت بے مذکرتے ہیں۔ مختصر یہ کہ میرے قبسم کے جواب میں انھوں نے کچھ کہا۔ جو میں سمجھا ہیں۔ چکبست پہلے بھی ترجمانی کر چکے تھے۔ میں نے ان کی طرف دیکھا۔ چکبست کی آنکھیں ڈبڈیاں ہیں اور آواز بھرا ہی۔ جب یہ لفظ گویا دم

توڑتے ہوئے ان کی زبان سے نکلے۔ ”جہاں میں دواجوپی لیتا ہوں تو ان محبت کے باولوں کی خاطر اور اس غرض سے بھی کہ بامباطہ مردوں“۔ لہجہ آنا بگر ٹکیا گیا تھا کہ روز کے پاس ملٹھنے والوں کے سوا ان کی بات سمجھنا مشکل تھا۔ چکبست کسی کی تکلیف ہنسی دیکھ سکتے تھے۔ پھر دوستوں کی تکلیف پر ان کی سہارہ دی اور رنج کا تذکرہ کیا ہے۔

شاعر اور وہ لوگ جو ادب اور زبان سے دلچسپی رکھتے ہیں وہ اپنے طرزِ عمل میں قومی اور مذہبی تعصب سے کتنے ہی دور کیوں نہ ہوں مقامی تعصب پا عصیت سے شاذ نہاد رہی آزاد ہوا کرتے ہیں۔ چکبست میں یہ وصف تھا۔ یہ کہنا سرا سر صحیح ہے کہ ان کی ادبی تنقیدیں مقامی تعصب یا جانب داری سے بہراؤ ہیں۔ فضح الملک داع غدھوی کی شاعری پر ایک پریغز تنقید لکھتے ہوئے کہا ہے: ”داع کے کلام کی تائیراں امر کی شاہد ہے کہ اس کے قدر لیتی شاعر ہونے میں کلام ہنسیں؟“ اسی بصرے میں ہر پہلو سے بحث کرنے کے بعد حضرت امیر ملیانی اور حضرت داع غدھوی کی موازنہ کرتے ہوئے کہتے ہیں۔ ”داع کے سینے میں شاعری کی آگ روشن ہے۔ لہذا اس کا کلام گرمی تائیر سے مالا مال ہے۔“ امیر کا کلام اس کیفیت سے ظالی ہے۔ ان کی شاعری مخصوصی شاعری ہے۔ وہ اصل جو ہر شاعری جو قدر لیتی شاعر اپنے ساتھ کے پیدا ہوتا ہے امیر کی طبیعت کا حصہ نہیں۔

چکبست کا تخلی جتنا بلند تھا اتنی ہی ان کی نظر و سیع بھتی سماج کی حالت اور اجتماعی اخلاق پر کیونکران کی نگاہ نہ پڑتی۔ یہ نہیں کہ وہ مغرب کی تہذیب

اور کچھ کے دشمن تھے بلکہ ان کا مسلک "خُذ ما صفا و دع ما کدر" تھا۔ یعنی یورپ والوں کی ظاہری فضولیات کی نقل نہ کرنی چاہئے۔ بلکہ ان کے اخلاق سے وہ خوبیاں سلکیں چاہیں جنہوں نے دنیا میں کامیابی کی کنجی انھیں سونپی ہے۔

کہا ہے ۷

ان کو تہذیب کی یورپ کی نہیں کچھ رٹکا
ظاہری شان دنماش پول جاں ہڈی شار
ہیں وہ سیدہ میں نہماں غیرت قومی کے شرا
جن سے مغرب میں ہوتے خاک کے پتے بیدار
یہر یورپ سے یادگار دادپ سیکھا ہے
ناچنا سیکھا ہے اور لہو ولعب سیکھا ہے
انسان کے ضمیر کی پوری کیفیت اور مزاج کا اصلی رجحان جیسا اس کی نج
کی خط و کتابت سے ظاہر ہوتا ہے جو بے تکلف دوستوں کے ساتھ ہو ویسا اس
کی تصنیف و تالیف سے نہیں۔ یہاں چکبست کے ایک خط کا کچھ حصہ سنایا جاتا
ہے جو ان کے کیر کٹر پر کیا ان کے کلام پر تیز ردشی ڈالتا ہے۔ اس سے یہ
بھی ظاہر ہو گا کہ وہ بڑے زندہ ول تھے اور ان کا مزاج کتنا نازک اور نکین
تھا۔ یہ خط انہوں نے لکھنؤ سے گونڈہ کے راستے بہراج کے سفر اور وہاں کے
قیام سے متعلق ایک دوست کو لکھا تھا۔ میزبان اور ہمراہی بھی بے تکلف دوست
تھے۔ لکھتے ہیں۔ بہراج کا سفر بہت اچھا رہا۔ ٹوپا صاحب ہمراہ تھے۔ راستہ میں
پرس چاندار ہا۔ وہ آئے جب میں رہ گئے۔ گاڑی میں بیٹھے تو اس قدر کشاکش
بھتی کہ الاماں۔ آپ نے دیکھا ہو گا کہ اکثر چڑپہ بخار نہاس میں چڑیاں بیچنے جلتے
ہیں تو ایک پنجرے میں تکے اور پر میں چلیں جاؤ رکھر لیتے ہیں۔ یہی کیفیت ہمارے
درجے کی بھتی۔ قلی دو آنے مانگتا ہے۔ بھم ایک آنہ دیتے ہیں اور اس سے وعدہ

کرتے میں کہ جب لوٹ کر آئیں گے بقیہ ایک آنے والے دیں گے۔ وہ ہماری پوشک ویکھ کر ہماری مغلسی کا یقین نہیں کرتا۔ مسافر ہماری صورت دیکھتے ہیں اور سکراتے ہیں۔ ایک آنے والے اس لئے بچا لیا کہ گونڈہ کے آئیش پر خود اس باب نہ اٹھانا پڑے۔ دقیقاً تو سفر نہ کرنا چاہیے۔ میرے ساتھ تو ٹوپا صاحب کی صورت میں دشاشوں ساتھ ہی تھا۔ بہر حال راستہ با توں میں اور انہیں کٹ گیا۔ گارڈی کی چال ایسی کہ سبحان اللہ۔ بس آئیش کا پر شیر یاد آتا تھا سے

چال ہے مجھ ناتواں کی سرخ بجل کی ٹپ ہر قدم پر ہے لگان پاں رو گیا داں رہ گیا
صحیح ترٹ کے بہرائچ پہنچے۔ مرکان کا دروازہ بند تھا۔ میں نے پاہر سے آواز دی کہ تماں آیا ہے۔ آدمی نے گھبرا کر دروازہ کھولا۔ اندر پہنچنے تو دیکھا پنڈت صاحب آئیش جانے کی تیاری میں مصروف ہیں۔ دونوں ہاتھوں سے چور ڈیدار پا چاہ مہ سوکھی پنڈلیوں پر چڑھا رہے ہیں۔ اس ایمید پر کہ بہرائچ کی گارڈی ہمیشہ دیر سے آتی ہے آپ دیر سے بستر سے اٹھے۔ مگر مرکان دیکھ کر طبیعت خوش ہو گئی۔ نیا بنا ہوا ہے اور بہت اچھا ہے۔ بنرگوں سے سنایا ہے کہ اچھا مرکان اچھی بیوی اور اچھا خدستگار تقدیر سے ملتا ہے۔ ترلوکی ناتھ دو صورتوں میں صرور خوش نصیب ہیں۔ مگر دیہاتی تُوکر بالکل بے وقوف ہیں ترلوکی ناتھ کی بیوی بالکل تند رست نہ بھتی۔ مگر جس سرگرمی اور اخلاق سے ہمہ ان نوازی کا حق ادا کیا فابل تعریف ہے۔ کشمیری خاندانوں میں جو پرانا طریقہ ہمہ ان نوازی کا تھا اس کا نقشہ نظر آتا تھا۔ میں نے پرانا طریقہ اس

لئے کہا کرنی تراش کی لڑکیاں اپنی نزاکت ہی کا بوجھ نہیں اٹھا سکتی ہیں۔ وہ دوسروں کی خاطر کیا کریں گی۔ تزلوکی ناتھ کا ذکر فضول ہے۔ ٹوپا کی سندھیا کے لئے پنجاہ کے مقابلے میں ایک مرد تجویز کر دیا گیا تھا وہیں بیٹھ کر پوچا کرتے تھے جوستے کی سیاہی کی ڈبیا میں رُ دراج کے دانے سامنے رکھ کر بیٹھتے تھے۔ اور سندھیا کرنے کے بعد انڈے کا آچمن ہوتا تھا۔ میں تو ان کے تقدیس کو دیکھ کر یہ سمجھا کہ شاید یہیں سے سیدھے بہشت کو نہ چلے جائیں۔ کھانا پر تکلف دونوں وقت تیار ہوتا اور یہ خوب ڈٹ کر کھایا کرتے تھے، یہ سناتے کہ اگر کسی شخص کی کوئی جسمانی قوت کم ہو جاتی ہے تو اس کا نعم البدل مل جاتا ہے۔ مثلاً انہوں کی آہٹ پانے کی حسِ معمول سے زیادہ تیز ہو جاتی ہے، اسی اصول پر ٹوپا صاحب کے دل اور پھیپھڑے کی قوتِ معده میں منتقل ہو گئی ہے۔ بے حد کھاتے ہیں اور ہضم کرتے ہیں۔ اگر خون کے بدے بلغم نہ بنے تو مجھ سے زیادہ تیار ہو جائیں ॥

اپنے سیاسی اصول اور ادبی مذاق کی اشاعت کی غرض سے ایک باوقعت رسالے میں چکبٹ کا بڑا حصہ تھا جو برسوں بہت آبُ تاب سے نکلتا رہا۔ اس کا نام ”صحح امید“ تھا۔ قصہ مختصر چکبٹ کا یہ شعرِ حقیقت میں ان کے حسب حال ہے۔

قوم کاغذ مول لے کر دل کا یہ عالم ہوا
یاد بھی آئی نہیں اپنی پریشانی مجھے

ادبی دنیا کو ہمیشہ ماتم رہے گا کہ ادب اور شاعری کا یہ روشن ستارہ جس کی ضیاء سے کل ملک منور تھا وقت سے پہلے غروب ہو گیا جکبٹ کی

۳۴

پیدائش ۱۹۲۶ء میں اور وفات ۱۹۷۶ء میں ہوئی۔ کل تین تا چھ سو برس کی عمر
پائی حضرت محترم حسنی نے مرحوم ہی کے مشہور شعر کے ایک مصروع سے تاریخ
نکالی ہے

ان کے ہی مصروع سے تاریخ ہے ہمراہ ۱۹۷۶ء
موت کیا ہوا نہیں اجزا کا پریشان ہونا

پنڈت برجمبو ہن دنما نزدیکی فیضی دہلوی

فضح الملک و آغ دہلوی

کون سادل ہو گا جو استادِ آغ کے غم میں داع و ارنہیں۔ میں تو ان کا شاگرد ہوں اور شاگرد بھی ایسا جو ہر گھر ہی دم کے ساتھ تھا۔ نہ میں ان سے جدا۔ نہ وہ مجھ سے الگ۔ سیر و تفریح میں بھی اگر میں ان کے ساتھ نہ ہوتا تھا تو سلسلہ رسائل و رسائل۔ بعد کی ملاقاتیں۔ زبانی پاٹیں تلاقوں ماقات کر دیتی تھیں ایک پاٹ ہو تو پتاوں۔ ایک قصہ ہو تو بیان کروں۔ ایک غم ہو تو روؤں۔ بس یوں سمجھو کوہ ایک مرد خدا کو میں جانتا تھا اور میری خدائی اس سے وابستہ تھی۔ حضرتِ آغ کی تصویریں تو اپنے دیکھی ہوں گی۔ اس مقاش کے نقش و نگار سے تو اپ کی آنکھیں آشنا ہوں گی۔ لیکن کچھ واقعات کے نقش میرے دل پر رہ گئے ہیں۔ لگے ہاتھوں وہ بھی دیکھہ لیجئے۔

شام کا وقت ہے۔ دربار کا موقع۔ علیٰ حضرت حضور نظام کا کیپ دلی کلب میں رونق افراد زہے۔ ایک خیمه دا آغ صاحب کو ملا ہوا ہے۔ میں حاضر خدمت ہوں۔ رمضان المبارک کا ہبہ۔ افطار کا انتظام۔ استادِ خود افطاری تیار کر رہے ہیں۔ گور و زہ سے نہیں ہیں۔ لیکن ثواب میں حصہ بنانا چاہتے ہیں۔ میں نے دست بستہ عرض کی کہ گھر جا کر روزہ کھول لوں گا۔ آپ کیوں تکلیف فرمادے ہیں۔ ارشاد ہوا۔ ارسے سید مجھ کو تو تیرے نانا بخشوالیں گے۔ مجھ کو بھی تو کچھ ثواب کایاں دے۔ پاٹیں کرتے کرتے کہنے لگے: بخوبی دیا رہ ہماری تو طبیعت

کند ہوئی جا رہی ہے۔ میں نے کہا اسٹاد! کیا فرمادا ہے ہیں آپ۔ آپ کی طبیعت اور کند بیہ تو خنجر برائی تھی آبدار ہے۔ اس کو زنگ اور گٹافت سے کیا کام پولے۔ تو تو چانتا ہے حینوں کو دیکھتا ہوں اور خوبصورت شعر کہتا ہوں، یہ ٹھیکر اکیپ کا معاملہ، یہاں پر یوں کے پر جلتے ہیں۔ اور ہاں میاں بخوبی ایک ایک دفعہ تم نے ہرن کے کباب کھلانے تھے۔ وہ اس مزہ کی چاٹ بھتی کہ آج تک ہونٹ چانتا ہوں۔ جیدر آباد میں ہرن دیکھنے کو نہیں ملتا۔ اس کے گوشت کو جی ترستا ہے۔ ایک دفعہ تو بیٹھا پھر دیسے ہی کباب کھلادے۔ خدا کرے تیری طبع شونخ دشمنگ میدان سخن میں ہرن کی طرح چوکریاں بھرے۔ میں نے کہا بہت بہتر۔ ایک دو روز میں حاضر کر دیں گا۔ پھر بڑی دیر تک صحبت آرائستہ رہی کس مزے کی باقی تھیں اور کیا لطف صحبت تھا۔

دل من داند من دانم داند دل من

رات گئے واپس آیا۔ صحیح جانے کی تیاری کر رہا تھا کہ دروازہ پر آدمی نے آواز دی۔ معلوم ہوا۔ اسٹاد نے پرچہ بھیجا ہے۔ کھول کر پڑھا تو صرف پھر عہ درج تھا۔

نہیں بلتنی یہاں ہر نی ترستا ہوں کیا بول کو

میں ہر نی کا مطلب بھی سمجھ گیا اور کیا بول کا مدعا بھی۔ اسٹاد کو آہو چشمیں سے کچھ اس بلا کا عشق تھا کہ ان کی مفارقت سے وحشت ہوتی تھی میں نے دوسرے روز ہرن کی دو رانیں منگوادی کے ایک رکاب پر بدل کر جوالہ کیس اور کہڈیا کر سیخ کے کباب اور جس جس طرح کے کباب تم کو پکانے اور ملنے

آئے ہیں دوپھر سے پہلے پہلے تیار کرو مزید براں مختلف قسم کے اور لکھاؤں کا جی
اہم کیا مثلاً نور محلی پلاو۔ پچی ب瑞انی۔ رنگترا پلاو۔ دو تین طرح کے پرندے۔ فجع
اور نان پاؤ کے لگڑے۔ دوہنگیوں میں رکھوا کر جا پہنچا۔ یہ وہ زمانہ تھا جب کہ یہ
ضیغیر میدان سخنوری گو عمر میں بڑھا ہو گیا تھا۔ لیکن طبع جواں رکھتا تھا جس وقت
میں پہنچا تو استاد نے خصاپ باندھ رکھا تھا۔ فرم اندام۔ دراز قامت۔ چوڑی
پڑی۔ بھرا ہوا چہرہ۔ بڑی بڑی شوخ آنکھیں۔ ع آنکھ میں شوخی کس بلکی تھی۔
کچھ کہا نہیں جاتا۔ نگاہ قیامت کی نئی نہ اجوہینہ کے پار ہو۔ دل میں لگر کرے۔
غرضکہ داع صاحب عجب سج دھج سے بیٹھے تھے، بہنگیاں دیکھ کر پوئے جضرت
یہ اتنا کیا لے آئے آپ؟ کیا کسی کی دکان اٹھا لائے۔

جاڑے کا موسم تھا۔ نتھام چیزوں ٹھنڈی ہو گئی تھیں۔ میں نے عرض
کیا۔ کھاناوش فرمائے سے آدھ لکھنہ پہلے فرمادیجے گا تاکہ کھانا گرم ہو جائے۔
فرمایا وقت ہو گیا ہے۔ خصاپ دھو کر کھاؤں گا۔ آدمی کو بلاؤ کر کہا۔ دیکھو محبوب
پار جنگل کو میرا سلام کہو اور کہنا۔ آپ نے کھانا نہ کھایا ہو تو میرے ساتھ کھائے
اس عرصہ میں میں نے رکا پدار کو حکم دیا کہ کھانا گرم کرے۔ اس نے دہی اور
محن لگا کر بیخی شروع کیں۔ داع صاحب نہایت سرخور اور خوش
خوراک تھے۔ کھانا کھاتے تھے اور مرے لے لے کر کھاتے تھے۔ بیل صحن باع
سے اور شاگرد استاد سے دور زیادہ عرصہ نہیں رہ سکتا۔ میں دلی میں تھا
اور استاد جید را پا دیں۔

اعلیٰ حضرت حضور نظام نے استاد کی تشوہ میں اضافہ فرمایا۔ یہ واقعہ

بھی قصہ طلب ہے۔ حضرت داعی نے بر سر دربار غزل گزراں می مقطوع تھا۔
 تم نک خوار ہوئے شاہ دکن کے اے داعی
 اب خدا چاہے تو منصب بھی ہو جا گیرے ہو۔
 وہاں کیا کمی اور کیا دیر حکم ہو ا اور ترقی ہو گئی۔ مجھے اطلاع
 ہوئی۔ مبارکباد پذیر یعنی خط پیش کی۔ جواب آیا۔ دور کی مبارکباد ہم قبول نہیں
 کرتے۔ میں نے جانے میں عذر لنگ پیش کیا۔ دوسرا خط آیا۔ اس میں یہ شعر
 درج تھا۔

دیکھتے اس سے ملتا ہے خدا کون سے دن
 کون ہی رات ہو مقبول دعا کون سے دن
 شعر کے نیچے لکھا تھا۔ یہ شعر تم کو فحاطب کر کے کہا گیا ہے۔ میرے عذر کے
 جواب میں یہ مصروف تحریر تھا۔ ع بخود پہنانے باز ہو کم جانتے میں ہم۔ ہم کو تو پہاڑ
 درکار تھا۔ مجنوں را ہوئے ہیں است۔ داعی صاحب میرے استاد تو تھے ہی لیکن
 حقیقت یہ ہے کہ میں عاشق تھا اور وہ محشوی۔ وہ شمع تھے میں پروانہ۔ ادھر
 پروانہ ملا ادھر میں روانہ ہوا۔ چند راپاں میں ایک روز شام کے وقت میں استاد
 صاحب کے پاس بیٹھا تھا۔ وہ شعر کہہ رہے تھے میں لکھتا جاتا تھا۔ ایک صاحب
 تشریف لائے۔ ادھر ادھر کی پاٹیں کرنے لگے۔ تھوڑی دیر بعد استاد کی زوجوں
 کا ذکر آیا۔ ان صاحب نے دریافت کیا۔ استاد آپ ایسے جلدی کیونکہ شعر کہہ لیتے
 ہیں۔ استاد نے کہا۔ اور جناب کیونکر کہتے ہیں۔ انہوں نے فرمایا۔ حقہ لے کر پینگ
 پر لیٹتا ہوں۔ کرو میں بدلتا ہوں۔ بھی امتحنا ہوں۔ بھی مجھنا ہوں۔ طبیعت پر

زور دالا ہوں تب بڑی مشکل سے ایک شرمند تھا ہے۔ داع صاحب نے مسک کر فرمایا
معاف کیجیے گا۔ آپ شفر کہتے نہیں شفر چھٹے ہیں۔

سچ یہ ہے کہ غصب کی بذلم سخ اور شوخ طبیعت پانی تھی۔ ایک لطیفہ کیا
ہزاروں موجود ہیں متوسطہ چند مشتہ از خردارے پیش کئے دیتا ہوں۔

ایک دن حضرت نماز پڑھ رہے تھے۔ ایک شاگرد آئے۔ ان کو نماز میں مشغول
دیکھ کر واپس چلے گئے۔ اسی وقت داع صاحب نماز سے فارغ ہوئے۔ نوکر نے کہا
فلام صاحب آئے تھے۔ فرمایا دوڑ کر بلا لا۔ جب وہ صاحب آئے تو داع صاحب
نے فرمایا۔ آپ اگر کیوں چلے گئے۔ کہا۔ آپ نماز پڑھ رہے تھے۔ فرمایا حضرت میں
نماز پڑھ رہا تھا لا حول تو نہیں پڑھ رہا تھا جو آپ بھاگے۔

اوسمیتے ایک مرتبہ رام پور میں نواب کلب علی خاں صاحب مرحوم کے سامنے نظر
سانس پر بحث چھڑ گئی۔ اس نے کہ دلی والے سانس کو مذکر لکھتے اور لکھنؤ والے
موش۔ لکھنؤ اور دلی کے شعرا موجود تھے۔ ان میں امیر منیانی اور داع صاحب
بھی تھے۔ لیکن استاد بحث کے دوران میں خاموش بھی ہے رہے۔ آخر جب بحث کو
طول ہوا اور کوئی میصلہ نہ ہو سکا تو نواب صاحب نے فرمایا۔ داع صاحب
آپ یہی تو کچھ فرمائیے۔ استاد نے کہا جھنور میرا نیصلہ تو یہ ہے کہ مونث کا سانس
مونث اور مذکر کا مذکر سمجھا جائے۔ سب لوگ ہنس کر چپ ہو رہے۔

پیدائش۔ مجھے خوب یاد ہے کہ ایک مرتبہ قبلہ داع صاحب نے فرمایا تھا۔ خدا
شہنشاہ اعیین میری چوبیس سال کی تھتی۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ آپ ۲۳۷۸ء
میں پیدا ہوئے۔ نواب شمس الدین احمد خاں والی فیروز پور جہر کہ آپ کے والد

تھے۔ آپ ڈھائی میں برس کی عمر میں ملکیم ہو گئے تھے۔

تعلیم و تربیت۔ آپ نے فاضل ادیبوں اور عالموں سے عربی فارسی پڑھی تھی۔ ذہین ہونے کی وجہ سے بہت جلد فارغ التحصیل ہو گئے۔ اس کے ساتھ ہی زمانہ قدریم کی تہذیب کے موافق آپ نے فن سپر گری یعنی علی ل۔ بانک بنوٹ تلوار لگانی۔ پیر اندازی، شہسواری وغیرہ فنون بھی حاصل کئے۔

شعرگوی کا شوق۔ بچپن ہی سے شعرگوی کا شوق تھا۔ معلومات و تجربہ نہایت وسیع تھا۔ طبیعت میں شوخی، چلپلاپن بہت زیادہ تھا۔ ابتداء ہی میں آپ کے اشعار مقبول عام ہو گئے تھے۔ استاد حضرت ذوق کے شاگردوں میں جو عروج دشہرت حضرت داع کو نصیب بھی وہ کسی اور شاگرد کو نصیب نہ ہو سکی۔ آج ہندوستان میں ایک فرد بھی ایسا نہ ہو گا جو حضرت داع کے نام سے واقف نہ ہو اور اُسے ان کے اشعار یا غزلیں یاد نہ ہوں۔

زبانی جن لوگوں نے حضرت داع کو دیکھا ہے اور اس زمانہ کے مشاعروں میں شرکت کی ہے۔ اس وقت کی محفلوں کو پا درکرتے ہیں۔ اور روئے ہیں۔ آہ مجھے بھی جب وہ زمانہ پا دآتا ہے تو گھنڈوں خون کے آنسو رُلاتا ہے۔ ان کی وہ شیری اسلامی۔ وہ پذلہ سنجی۔ وہ فقروں میں لطافت و طراحت۔ وہ بات بات میں پھر کا دینے والے لطیفے۔ وہ شستہ او زکال میں ڈھلنے ہوئے الفاظ۔ وہ چوت فقرے گفتگو کے وقت یہ معلوم ہوتا تھا گویا علم کا دریا ہے کہ زور و شور سے بہتا چلا جاتا ہے۔

افسوس وہ اردو کا ما یہ ناز شاعر دنیا میں نہ رہا۔ جس کو یہ دعویٰ تھا

اور صحیح دعویٰ تھا

اردو ہنگیں کا نامہ بیں جانتے ہیں داع۔ ہندوستان میں ہوم ہماری زبان کی ہے

کلام کی عام مقبولیت کا یہ عالم تھا کہ جو غزل رات کو مشاعرہ میں پڑھتے تھے صبح کو کوچہ و بازار میں لوگوں کی زبان پر ہوتی تھی۔ اکثر آدمی داع صاحب کی عام مقبولیت پر حسد کرتے تھے۔ حاسد وال میں ایک بڑے شاعر بھی تھے انہوں نے ایک دن داع صاحب کو سر را ڈکھ کر کہا۔ حضرت آج میرا آپ کا فیصلہ ہو چکے۔ فرمائی۔ میں اچھا شعر کہتا ہوں یا آپ۔ حضرت داع صاحب نے فرمایا۔ حضرت شعر تو اچھا آپ ہی کہتے ہیں۔ لیکن میں اس کا کیا علاج کروں کہ لوگ میرے ہی اشعار پسند کرتے ہیں۔

لباس جسم قدرت نے ایسا بنایا تھا کہ ہر لباس زیب و تباہ تھا۔ ٹوپی اس وضع کی پہنچتے تھے جیسی لوہار دو والے پہنچتے ہیں۔ جسم پر کرنا اور اس پر تجھی چولی کا انگر کھا۔ سیدھی تراش کا پا جامہ۔ پاؤں میں ڈیڑھ حاشیہ کا جوتا۔ ولی کے قدیم شرفوں کی یہی وضع تھی۔ یہی لباس قیامِ رامپور تک رہا۔ حیدر آباد جا کر اچکن یا شیر داں۔ انگریزی جوتا یا منصبی مگر یہی استعمال کرتے تھے۔ یہ لباس بھی خوب زیب و تباہ تھا۔ حقہ کا شوق تھا۔ پیچوں پیٹے تھے۔ اور حلکی وقت ٹھنڈی نہ ہوتی تھی۔ شترنج۔ چوسر۔ گنجھ خوب کھیلتے تھے۔ گنجھ میں داع صاحب کو کبھی میں نے چکرہ کھاتے نہیں دیکھا۔ غضب کی یاد تھی۔ علم موسيقی میں بھی خوب لہر تھے۔ ستار اچھا بچاتے تھے۔ خوش الحان تھے۔ آواز میں بے انتہا درد تھا۔ پڑھنے کی طرز۔ مشاعرہ میں ہمیشہ تحت اللفظ غزل پڑھتے تھے۔ فضاحت زبان تھی بل میں لیتی تھی۔ الفاظ موتیوں کی طرح ڈھلتے چلتے آتے تھے۔ شعر اس خوبی کے داگرتے تھے کہ سننے والے کے سامنے نقشہ کھنچ جانا تھا۔ میں نے ان سے بہتر غزل

پڑھتے کسی کو دیکھا نہ سنا۔ ان کے سامنے کبھی کسی کی غزل کا میاپ نہ ہوتی تھی۔ انہر عمر میں مشاعرہ میں خود غزل پڑھنی چھوڑ دی تھی کسی اور کے پڑھوادیتے تھے۔

نفاست طبع۔ طبیعت میں نفاست تھی۔ عطر کا بہت شوق تھا۔ ظہر کے وقت میں مل کر اور پر کا جسم دھلتا تھا۔ پھر سارے جسم پر عطر لاجانا تھا اس کے بعد ظہر کی ناز پڑھتے تھے۔ ایک کرتہ پا جا مہر دز پدلا جانا تھا۔

عادت۔ نہایت خلیق۔ باضار۔ فہدب اور شاشتہ تھے۔ حتیٰ کہ شاگردوں سے بھی آپ اور جناب کہہ کر بات کرتے تھے۔ کسی قدر زور نہ اور نازک مزاج تھے۔ لیکن بہت کم غصہ آتا تھا۔ اور تھوڑی سی معدودت پر فوراً اصحاب ہو جاتے تھے۔ دوستوں کی تکلیف سے بے چین اور ان کی خوشی سے خوش ہوتے تھے۔

جو انی میں ایک بچہ احمد مرزا خاں پیدا ہوا تھا۔ لیکن انہوں دو سال کی عمر میں دنیا سے چل بسا اور پھر اس کے بعد کوئی اولاد نہ ہوئی۔

بیجود وہلوی

ملشی پر کم چند آجہانی

پریم چند کی کچھ بات کرنے میں آج آپ کے سامنے ہوں۔ اس بات پر جی میں کچھ بے چینی ہوتی ہے۔ آج وہ ہمارے بیچ نہیں ہیں۔ اور بھی وہ دن تھے کہ ہم لوگ پاس بیٹھ کر چرچا کیا کرتے تھے اور ان کی بھتی کا قبیلہ کسی وقت بھی سنا جاسکتا تھا۔ پر اس بات پر آج ایک کر بھی تو نہیں رہا جاسکتا ہے۔ دنیا میں کون سدا بیٹھا رہتا ہے۔ اور کون بیٹھا رہے گا۔ آدمی آتے ہیں اور جو ان کے ذمہ کام ہوتا ہے کرتے ہوئے پڑھے کے پیچھے چلے جاتے ہیں۔ پر پریم چند اس انجان پر دے کے پیچھے ہو کر آنکھوں سے اوچھل ہو گئے ہیں۔ یاد سے دوڑ کر لینا انھیں ممکن نہیں ہے۔ زندگی ان کی اوسط سے زیادہ نہیں رہی۔ کل چھینٹ برس اس دنیا میں جئے۔ کہیں یہ برس روشنی کے برس تھے۔ اور ان کی زندگی کچی محنت۔ ایمانداری اور سادگی کی زندگی تھی۔

یہ تو آپ اور ہم جانتے ہی ہیں کہ ہندوستان میں ہندی اور اردو بھاشائیں جب تک ہیں پریم چند کا نام مست نہیں سکتا۔ وہ دھنڈ لا بھی نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ دونوں زبانوں کو پاس لانے میں اور ان دونوں کو مٹھنے میں ان کا بہت ہاتھ ہے۔ ان کے خیالات ہندوستان کی زندگی میں گھل مل گئے ہیں۔ اور وہ ہماری تاریخ کا جزو بن گئے ہیں۔

اُن کی کہانیاں لکھ گھر پھیلی ہیں۔ ان کی کتابوں کے ورق لوگوں کے دلوں میں بس گئے ہیں۔

لیکن اس سچائی کا بانی کون تھا۔ یہ بہت لوگوں کو معلوم ہو گا۔ کیا اپنی تھی جو پریم چند کی تحریروں کو اس قدر عمدہ بنادیتی تھی یہ جانتے کے لئے ذرا سمجھے چاکر دیکھنا چاہیے۔ ان کی سنسی تو مشہور ہی ہے۔ انہی میں میں نے کھلے گئے کا ویسا ترقیہ اور کہیں نہیں منا۔ گویا جس من سے سنسی کا وہ فوارہ نکلتا تھا اس میں کسی طرح کا کینہ اور سیل تورہ ہی نہیں سکتا۔

اُن پر چوڑیں بھی کم نہیں پڑیں بسب ہی طرح کی مصیبتیں بھیں جو بلنا پڑیں۔ پھر بھی۔ ان کی سنسی و صمیمی یا اچھی نہیں ہوتی۔ یا تو وہ سب پاؤں میں ایک طرح کی علیحدگی کے بہاؤ سے الگ کر کے دیکھ سکتے تھے۔ اس خوبی کی قیمت سمجھنے کے لئے ہم ان کے پچھنے کے زمانہ کو بھی کچھ دیکھنا چاہیے۔

چھپیں کی بات ہے کہ ماں گزر پھی تھی۔ پتا کا بھی پندرھویں بر س انتقال ہو گیا تھا۔ لکھر میں دوسری ماں تھی اور بھائی تھے اور بہن تھی۔ لکھر میں تن کی پالنے کو تھے۔ پر آمدی پیسے کی نہ تھی۔ اور باراں پریم چند کے من میں ایک اے پاس کر کے دکیل بننے کا ارمان تھا۔ بیاہ بھی چھپیں میں ہو گیا تھا۔ دہی لکھتے ہیں۔ پاؤں میں جوتے نہ تھے۔ بدن پر ثابت کپڑے نہ تھے۔ گرانی الگ۔ دس سیر کے جو تھے۔ اسکوں سے سارے ہے تین بچے چھپی ملتی تھی۔ کوئی نز کا بچ بنارس میں پڑھتا تھا۔ فیض معااف ہو گئی تھی۔ امتحان سر پا اور میں باش کے پھاٹک ایک لڑکے کو پڑھانے چاپا کرتا تھا۔ جائے

کاموں کم تھا۔ چار بجے شام کو پہنچ جاتا۔ جس بجے چھٹی پاتا۔ وہاں سے میرگھر پانچ میل پر تھا۔ تیز طبقے پر بھی آنڈھے بجے رات سے پہلے گھر پہنچتا۔

اپنی آپ بنتی کی کہانی جوانہوں نے لکھی ہے اس سے ان کے شروع کے چیزوں کے دن آنکھوں کے آگے آ جاتے ہیں۔ ماں کم عمری میں ہی انھیں چھوڑ کر چل بیس۔ پندرہ سال کی عمر میں پتا بھی چھوڑ گئے۔ شادی چھٹپنی ہی میں ہو چکی تھی۔ گھر میں کئی آدمی تھے۔ پر آمدی ایک پیسے کی نہ تھی۔ ادھر بالا کا پریم چند کے من میں پڑھائی کی چڑھائی چڑھنے کے حوصلے تھے۔ گاؤں سے روزانہ دس میل چل کر پڑھنے پہنچتے۔ گزارے کے لئے تین اور پانچ روپے کے پیوشن پایے۔ میرٹک جوں توں پاس ہوا اب کے کیلئے کوشش کیں۔ سفارش بھی پہنچائی۔ لیکن کامیاب نہ ہوئے۔ داخلہ ہو گیا تو حساب نہیں لے ڈوبتا رہا۔ صالحہ سال ریاضی کے مضمون کی وجہ سے وہ فیل ہوتے رہے۔ آخر دس بارہ سال بعد جب ریاضی اختیاری مضمون ہوا تب بڑی آسانی سے انہوں نے وہ امتحان پاس کر لیا۔ پڑھائی کے دنوں میں لکتنے دن انھیں بخوبی چیزوں پر رہنا پڑا۔ اور لکتنے دن ایک دم بیکھانے گزارے۔ اس کا شمارہ نہیں۔ آخر ایک دن پاس کھانے کو کوڑی نہ بھی تھی تب دوسرے سے بے پیار کے ساتھ سنبھال کر رکھی ہوئی ایک کتاب دکان پر بیٹھے پہنچے۔ دو روپے کی کتاب کا ایک میں سو دا ہوا۔ روپیہ لے کر دکان سے اتر رہے تھے کہ ایک شخص نے پوچھا پڑھنے کیا ہو؟ ”” نہیں مگر پڑھنے کو دل چاہتا ہے“ دیٹرک پاس ہو؟ ” ” جی ہاں ” ” نو کہی تو نہیں چاہتے؟ ” ”

”نوكری کہیں طے ہی نہیں“ اخھیں بھلے مانس نے اخھیں ملازمت دی تو شروع میں اٹھا رہا تو پے تھواہ ہوئی ہیں سے ان کی زندگی کا شروع سمجھنا چاہیے۔

میری پہلی ملاقات سنہ ۱۹۸۴ء میں ہوئی۔ دسمبر کا ہبہ نہ تھا۔ بیماری سے لوٹ رہا تھا۔ بیماری میں ان کا خط مل گیا تھا کہ ٹھیک کس جگہ ان کا مکان ہے۔ آنے کی اطلاع نہ دے سکا تھا۔ سید حادیاں پہنچا۔ پہلے کبھی اخھیں دیکھا نہ تھا۔ تھوڑی خط و کتابت ہو چکی تھی۔ اسی بھروسہ میں لکھنؤان کے گھر جادھمکا، میں انجان وہ مشہور صنف۔ مجھے قدر کرٹنے کا شعور نہ سپکھنے کا تھا۔ ان کے فلم کی دھاک تھی۔ لیکن انہوں نے خط ایسا بھیجا تھا کہ گویا دونوں ہاتھ پھیلا کر رہ مجھے بلار ہے ہیں بعج ابھی بھلا بھی نہ تھا کہ میر نے زینہ پر بیچ کر آدازیں دیں۔ زینہ کھلا۔ اور ایک شخص ایسے نظر آئے جیسے نیند سے ابھی اٹھے ہوں۔ خمار آنکھوں میں ابھی باقی تھا مسوچیں بڑی بڑی تھیں۔ قد کچھ پستہ۔ ماتھا اٹھا ہوا تھا۔ پر اس وقت پالوں نے آکر اسے ڈھک لیا تھا اور یہ سب ملا کر سر کچھ چھوٹا معلوم ہوئا تھا۔ لال اہلی کی اولیٰ چادر ایک کنڈے پر لئے تھے۔ جو پوں بھی بہت صاف تھی۔ رانزوں میں وصولی کافی اور پچھی بندھی ہوئی تھی۔ خیال پڑتا ہے کہ پدن پر نیم آستین ایک مرزا تھی۔ سچ پوچھئے تو میں اس کے لئے پیار نہ تھا۔ یہ شخص پر کیم چند ہوں گے۔ یہ گمان نہ ہو سکتا تھا۔ پر دری تھے پر کیم چند۔

بولے۔ کون صاحب ہیں۔

میں نے کہا نہ رہ۔

اتا کہنے کے بعد تو جیسے میں خالی ہی نہ چھوڑا گیا۔ زینہ کے پاس میں ان
میں پانی پھیلا تھا۔ اور کمرے کے اندر ایک میلی پچیلی میز تھی لیکن پر چشم
مجھ کو لے کر ایسے بیٹھ گئے کہ میں کسی چیز کے لئے بول ہی نہ سکا۔ اس
طرح کوئی نوجہ کئے۔ اتنے میں اندر سے کہلا یا گیا کہ آج دو آئے گی کہ
نہیں۔ پر یہم چند سن کر چونکے بولے۔ جے نتدر یہ لوہ میں تو وقت کا چال
ہی نہیں رہا۔ تم منہ پا تھا دھوڑ۔ اتنے میں دوائے آتا ہوں۔ اور اتنے
میں میں کیا ویکھتا ہوں کہ پر یہم چند طاقت سے مشتمی اٹھا انھیں کپڑوں
اور اسی صلیب پر میں کھٹ کھٹ زینہ سی اتر کر دوائی نے چل دینے۔ اتنے ہی جو
ایک ڈیرہ مکھنے ان سے باشیں ہوئیں تب میں دیکھ سکا کہ پر یہم چند اپنے
خیالات کی دنیا میں کتبے جگے ہوئے رہتے ہیں۔ پچھم میں کیا لکھا اور سوچا
چار ہے اس کا انھیں پورا علم تھا۔ اور وہ علم صحیح تھا۔

.....

..... ان سب باتوں کے بارے میں ان کی رائے اپنی ہی تھی۔
دوسروں کی نہیں۔ مکھی آنکھوں اور کھلی عقل سے چیزوں کو دیکھنے پر تھے
تھے لیکن آپ کے برتاؤ میں اتنے جاگے ہوئے تھے پہ نہیں کہا جا سکت۔
مگر اس کی انھیں پرواہ نہ ملتی۔

خیروٹ کر آئے۔ ناشستہ کیا۔ گپٹ پکی۔ کھانا کھایا۔ اور بولے

چلو و فر پڑیں۔ راہ میں جو پہلا یکہ ملا۔ اس سے پوچھا۔ کیوں دوست چلتے ہو۔

پکے والے نے کہا جواب دیا مجھے ٹھیک یاد نہیں۔ لیکن اس نے جتنے پسے بتلائے اس میں کچھ کمی انہوں نے اپنی طرف سے نہیں کی۔ نہ یہی دیکھا کہ وہ بڑھا چکریا ہے کہ نہیں۔ لیکے میں، مجھے بیٹھے کیے والے بوڑھے مسلمان سے دو ایک ہی باتوں میں انہوں نے ایک طرح کی برابری پیدا کر لی اور اسے اپنا بنا لیا۔

و فر پہنچ گر بولے۔ چلو جے نند رایک دوست ہے۔ اُنھیں تمہارا ہاتھ دکھائیں۔ میں نے کہا۔ ہاتھ کیوں۔ بولے بھائی وہ اس ہنر کے لئے ہیں۔ دیکھو تو جانو گے۔ آخر ہاتھ دکھایا گیا۔ اور لوٹتے وقت پوچھنے لگے کہو بجے نند رکیا رائے ہے۔

میں نے کہا۔ مجھے اس عالم پر لفین نہیں ہے۔ اور نہ مستقبل میں اپنے سے کچھ امید ہے۔ یہ جواب پر یہ کوپنڈ نہ آیا وہ دوسرے کی شخصیت کو کہ کر کے دیکھنا پسند نہیں کرتے تھے۔ انہوں نے کہا کہ مجھے اپنے مستقبل کے بارے میں نامید ہونے کا کوئی حق نہیں ہے سویرے کا آیا ہوا جب میں اسی شام پر یہ چند کے گھر سے لوٹ چلنے لگا تو مجھے معلوم ہوا کہ نہ جانے کب سے کسی بھائی سے بچھڑا ہوں انہوں نے اپنے اوپر کو ریان کوئی فرق مجھے محسوس نہیں ہونے دیا۔ بولے جے نند رجارتے ہو۔ میں نے کہا۔ ہاں۔ کہنے لگے میں یہ نہ جانتا تھا ایسا

تھا تو اسے ہی کیوں میں نے پھر کبھی جلدی آنے کا وعدہ کیا اور رخصت بوجیا اس طرح پہلی ہی دفعہ مجھے پریم چند سے محبت ہو گئی۔ کہ وہ پکھہ بھی اور ہوں چاہے نہ ہوں لیکن اندر تک کھرے آدمی ہیں اور دل ان کا صحیح ہے اور ثابت ہے۔

اس کے بعد تو خداوکتاست کافی ہوئی اور معلوم ہوا کہ وہ بُڑے بننے کے پیچے نہیں ہیں۔ سچا بُننا ان کا مقصد ہے۔ اپے کو سدا معنوی ہی آدمی کرنے ہیں۔ میں نے کہا اپ کو کیوں یہ معلوم نہیں کہ باہر اپ کی کتنی شہرت ہے۔

بوالے اس شہرت کا مستحق کوئی اور ہی ہو گا سچ جانو میں تو مزدور ہوں۔ لکھتے وقت مجھے ہر گھری یہ محسوس ہوتا ہے۔ پہلی پاروہ دہلی آئے۔ اس کی کہانی دل چپ ہے۔ میں نے ناگہانی ایک کارڈ میں انھیں لکھا کہ ہم لوگ گھر آئے ہو سکے اپ لیکن آپ بھی یہاں ہوتے تو بڑی رونق رہتی اس اپنے خط کے جواب کا انتظار مجھے تیرے روز یا چوتھے روز ہو سکتا تھا لیکن دیکھتا کیا ہوں کہ تیرے روز سورے ہی سو پرے پریم چند کندھے پر قبل لٹکائے گئی میں سے چلے آ رہے ہیں۔ میں اپنے مجھے میں رہ گیا۔ یو لا پیدہ کیا تاریخ خط ایسے کہاں سے چلے آ رہے ہیں۔ بوالے کل دو پہر بعد تھا راخط ملا۔ وقت تھا ہی۔ گاڑی مل سکتی تھی اسی لئے چلا آ رہا ہوں۔ میں نے کہا تاریخ دے دیا ہوتا۔ بوالے دیکھا۔ تھا راگھر مل گیا۔ کہ نہیں۔ تاریخ میں نا حق پیسے کیوں خراب کرتا۔

معلوم ہو اکہ ولی آنے کا زندگی میں ان کے لئے یہ پہلا موقع ہے اس ذہانت پر میں حیرت میں رہ گیا۔ پانچ چھروڑ دہ بہاریں رہے ان دونوں کافی تجھی پر ہی کئی پارٹیاں دی گئیں اور برابر لوگ ان کو پوچھتے اور کیہرے رہے۔ میں میں سمجھا تھا کہ چلواس سے ان کی بیعت بہلی رہی ہوگی۔ لیکن بات الٹی تھی۔ چلنے لگے تو بولے جے نند ریہ کیا تلاش بناؤ الا ہے۔

میں نے کہا کیوں لوگوں کا کیا آپ پر حق نہیں ہے۔ بولے۔ میں یہاں عزت پاتا رہوں اور گھروالے ہائی سلیمانیہ میں معلوم ہو اکہ زندگی میں ولی میں بنتی وائے یہ پہلے ہوش کے چار پانچ دن میں کہ جب انہوں نے سویرے کام نہیں کیا ہے۔ اس کے بعد یہاں ایک لٹریسی کانفرنس میں صدر پشاکر پر یہم چند کو سمی نے پلاایا۔ لیکن وہ آنے کو راضی ہی نہ ہوئے خط لکھا۔ تاریخیتے۔ لیکن انہوں نے لکھا۔ تم بلا و تو آجاد۔ لیکن کانفرنس کی بہت کیوں بیتے ہو۔ آخر رضا مندی دی، ای تو تماں میں

Reaching with protest

ان سب چیزوں سے میں نے دیکھا کہ انھیں ول کی تلاش ہے چہاں پہنچم ہو و پاں وہ بے دام حاضر ہو سکتے ہیں۔ مگر ویسے نہیں۔ دنیا کی شان و شوکت ان کے نزدیک کوئی چیز نہیں ہے۔ بڑے بڑے جلبوں اور مجموعوں میں بے لگ اور بے لوث خجال سے میں نے انھیں لکھو متے ہوئے دیکھا ہے۔ گویا وہ وصوہ دھام کے نہیں ہیں۔ کسی اور ہی گھری

چانی کے خواہاں ہیں۔

ایک بات پر اکثر ان کے ساتھ بات چیت ہو گئی ہے اور وہ ہے ایشور اور دھرم۔ وہ ایشور کے وجود کے قابل نہیں ہوتے تھے۔ کیونکہ دمکھتے تھے کہ ایشور اور دھرم اچھے سے زیادہ بڑے کام میں لائے جاتے ہیں۔

پوچھتے دنیا میں زور ہے ظلم ہے۔ لوگ ستائے جاتے ہیں اور بھوکوں مرتے ہیں چاروں طرف کو تو دکھ کی چخ پکار ہے۔ تم اس ایشور کو مانو گے جو اس سب کی اجازت دینا ہے۔ میں نے دمکھا ہے کہ ایسے وقت ان کی قوت گویا یعنی کم ہو گئی ہے اور آنکھوں میں چمک آگئی ہے یا تو دنیا کی دکھ کی چخ اس وقت بھی ان کے کافوں کے اندر پڑ رہی ہے اور وہ انہوں چین نہ لینے دینا چاہتی ہے۔ میں کہتا کہ مجھے ایشور کے وشواں سے بچنے کی راہ مل جائے تو میں خود نج نکلنا چاہتا ہوں۔ وہ کہتے کہ دمکھوں کے دکھ کی طرف سے دل کو کڑا کر کے تم ایشور میں بند ہونا چاہتے ہو۔ یہی تو؟ میں کہتا کہ ہاں یہی دل کو اور دوسرا کو ناسہارا ہے۔ میں نے دمکھا کو کہ اس بیان سے ان میں گرمی آگئی اور اپنے کوبہت زیادہ کو سنے کو تیار ہو گئے ہیں کہ کیوں دمکھوں کے دکھ درد میں وہ پوری طرح گھل مل نہیں سکے۔ وہ مصیبت زد دل کی حالت دیکھ کر خدا کے منکر ہو جاتے تھے۔

لیکن میں صدایہ مانتا آیا ہوں کہ دین اور دکھی لوگوں کی حمایت کرنا اور ان کے درود کو اپنا بنانا لینے سے ان کو دلی خوشی حاصل ہوتی تھی۔

..... اور اس لحاظ سے پریم چند سچے معنی میں رحم دل

اور نہ بھی آدمی تھے۔ مجھے وہ دن یاد ہے۔ کلکتہ سے لوٹا تھا پر یہم چند کھات پر پڑے تھے۔ بیمار تھے اور وہ موت کی بیماری ثابت ہونے والی تھی۔ جسم زرد ہو گیا تھا ہڈیوں کے سوا اس تن میں کیا باقی رہ گیا تھا۔ اُسی دن کی تصویر ہے جو جہاں تھاں اخباروں میں چھپی ہے۔ پسٹ کی تکلیف پڑھ رہی تھی۔ کسی کردار پڑھنے نہ تھا۔

لیکن دیکھتا ہوں کہ آنکھوں میں ان کی اب بھی میٹھے سلنے بھرے ہیں اور چہرے پر بثاشت ہے۔ ان کے دل میں نہ کوئی شکایت ہے اور نہ کوئی میل ہے۔

بیماری کے وقت شدت مرض میں تقدیر سے ہر کوئی ناراض ہو جاتا ہے اور طبیعت چڑپڑی ہو جاتی ہے لیکن کھات پر پڑے پڑے پر یہم چند کو اس دن بھی اپنی حالت کی فکر نہیں تھی۔ لیکن یہ فکر تھی کہ ہم کو کوئی تکلیف تو نہیں ہوئی ہے۔

بوئے چے نہ رکھ کر میں ایشور ملا کرتے ہیں لیکن مجھے اب بھی اس کی ضرورت معلوم نہیں ہوئی ہے۔ معلوم ہوتا ہے آخر تک ایشور کو تکلیف نہیں دوں گا۔

آج بھی اس حالت کو یاد کر کے میں تعجب کرتا ہوں کہ وہ کیا طاقت تھی جو موت کے سر پر آجھوں پر بھی پر یہم چند کو پسکون بنائے تھی۔ ان کی ساری نگاہیں میری نگاہ کے سچے رہ جاتی ہیں اور بیمار پر یہم چند کی وہ مطمئن آنکھیں میری آنکھوں کے سامنے آ جاتی ہیں۔

دو ایک بار موقع آیا ہے کہ میں نے ان کی آنکھوں سے آشونگتے دیکھے ہیں۔ ایک کتاب کا ذکر کرتے ہوئے وہ زارِ قطار و پڑیے۔ وہ اپنے کوفابو میں نہیں رکھ سکے اور جس وکھیا کے درد پر ان کا جی اس طرح مست کر رہا ہے ایک معمولی بازاری عورت تھی۔ ایک رو سی نادل کا دو ایک کیمکٹر تھی۔ پریم چند کا دل اس کی تخلیف پر بے بس طور پر اس طرح بھر آیا تھا کہ کہا نہیں جاسکتا۔ لیکن وہی نرم دل اپنے دکھ درد پر تو ملتا ہی نہ تھا۔ زندگی میں مصیبت ان پر کم نہیں پڑی۔ کیا مصیبتوں انہوں نے نہیں جھیلپیں لیکن ان کا دل مضبوط رہا۔ وہی دل دوسروں کی مصیبت دھیکر فوراً لمحچل جاتا تھا۔

پھر تو آڑی درشن ہی مجھے ملے۔ سوپرے سات بجے کے قریب ان کو بے ہوشی آجائے والی تھی اور اس کے پیچھے ہی پیچھے موت ہی۔ اسی رات دو ڈھانی بجے تک میں ان کے پلنگ کے پاس بیٹھا رہا۔ وہ آہستہ آہستہ پائیں کر سکتے تھے ایک ایک لفظ پر، نہیں، سانس لینا ہوتا تھا۔ کایا ان کی سفید پر گئی تھی، ہاتھ اور پیروں میں سو جن بھی پھر بھی تھوڑی بہت من کی بات مجھ تک پہنچا ہی سکتے تھے۔

میں نے دیکھا کہ اس وقت جو بات ان کے دل میں تھی وہ اپنی خاتمی نہیں تھی جس کے لئے جسے اسی لشی بھر کی اوپنچانی اور بھلانی کی طرف تب بھی ان کی نگاہ تھی۔ وہی ایک ان کی لگن تھی۔

پریم چند کی شخصیت کے بارے میں میں کوئی اندازہ نہیں دینا چاہتا ہوں۔

وہ کام دوسروں کا ہے۔ ان کی زندگی کی بہت سی باتیں مجھے یاد آتی ہیں ایک لمبا عرصہ ان کے ساتھ رہ سہھ کر میرا بیٹا ہے۔ ان کی یاد پر کچھ جی بھر آتا ہے اور دل بھاری ہو جاتا ہے۔ دنیا میں ان سے بڑی بڑی سیستان ہیں اور ہوتی رہتی ہیں۔ ان کے نیچ پر یہم چند کو کہماں رکھنا ہوگا۔ یہ مونخ جانے۔ میرا اس سے کچھ سرد کار نہیں۔ لیکن یہ میں جانتا ہوں کہ پر یہم چند کی زندگی بھی ایک لگن کا نونہ تھی۔ اور وہ آدھی زندگی نہیں تھی اس میں ہم سب کے سیکھنے کے لئے بہت کچھ سبق مل سکتے ہیں۔

چے نشید رکھار

مسح الملک حجیم ابیں خاں

ایک مغربی مصنف کا قول ہے کہ حقیقی ہیرودہ ہوتا ہے جسے اس کے اہل خانہ ہیرودھیں۔ اہل مغرب کے نزدیک اہل خانہ کے ذمہ میں ہ عزیز رشته دار ہی آسکتے ہیں۔ لیکن مشرق میں خون کے ان رشتہوں کے علاوہ ایک اور رشته ایسا ہے جو حقیقت کے اعتبار سے ان تمام رشتہوں سے گہرا اور ان تمام تعلقات سے زیادہ مضبوط ہوتا ہے۔ وہ رشته ہے استاد اور شاگرد کا۔ لہذا اہل مشرق کے نزدیک چاہیرو ہو ہے جو اپنے شاگرد کی نگاہ میں بھی ہیرودہ ہو۔

میں آج اپنی زندگی کے ان لمحات پر جس قدر بھی نازک کروں یا جائے کہ آج اپنے ایک ایسے ہی ہیرودی درخشاں زندگی کے متعلق کچھ بیان کرنے کا خواہ کو فرض ادا کرنا ہے۔ وہ ہیرودجے باہر کی دنیا نے ایک حکیم اور ایک سیاسی بہن کی حیثیت سے جانا۔ لیکن جسے ایک ایسے شاگرد کی نگاہ میں جس نے ان کی خلوت دخلوت کی زندگی کے نازک اور عین ترین پیلوؤں کا سلم طاع کیا نہ معلوم کن جسین بلند پوں پر دیکھا۔ مسح الملک حجیم محمد اجل خاں رحیم کی زندگی کے کوائف اور پیدائش کا محدود وقت۔ حیرت ہے کہ کیا بیان کیا جائے۔ اور کیا چھوڑا جائے۔ اس لئے کہ وہاں تو یہ عالم ہے کہ

زفرق تابعت دم ہر کجا کہ می نگرم
کرشمہ دامن دل میکشد کہ جا اینجاست
اور ارجاب ریڈ یو کی یہ کیفیت کہ دہندہ ذوق و لے لذت نظرنا دہندہ۔
اہنہ اظاہر ہے کہ میرا یہ بیان مکمل نہیں ہو سکتا۔ لیکن یہ چنان بھی ہے اس
کو توجہ اور غور سے سنئے۔ کیونکہ یہ اس شخص کی زندگی کا بیان ہے جس نے
اپنی زندگی کو دوسروں کی بھالائی کے لئے وقف کر دیا تھا۔ کیا ہندو۔ کیا
مسلمان۔ کیا سمجھی۔ کیا پارسی۔ سب کو ایک نگاہ سے دیکھا اور بغیر کسی ذاتی
غرض کے سب کی خدمت کی۔

حکیم اجل خاں بڑی خوبیوں کے آدمی تھے۔ وہ اسلامی طب کے
پیشہ پر سے عالم اور ریفارمر تھے اور اپنی گھر میو زندگی میں وہ ایک سچے
مسلمان اور اچھے ہندوستانی تھے۔

حکیم اجل خاں ایک امیر آدمی تھے۔ اور اچھر لٹھانے میں پیدا
ہوئے تھے۔ لیکن غربیوں کی طرح سادگی پسند تھے۔ اور سادہ زندگی بسر
کرتے تھے، اصراء کے سامنے وہ سلاطینِ مغلیہ کی شان و وبدبہ کا منون تھے
مگر غربیوں کے لئے وہ ہمدردی اور ایثار کا مجسم تھے۔ ہمیشہ ملک
کی بھالائی اور ہندو مسلمانوں کے سیاسی ملáp کے لئے سرگرم اور بے چین
رہا کرتے تھے۔ ان کا دل اس آرزو سے ببر پندرہ پا کرتا تھا کہ ہندوستان
کو دنیا میں عزت کا اونچا درجہ نصیب ہو۔

حکیم اجل خاں بخارا (ترکستان) کے مشہور صوفی بزرگ حضرت

خواجہ عبید اللہ احرار کی اولاد سے تھے جن کے پتوں خواجہ ہاشم اور خواجہ قاسم کو شہنشاہ بابر ہندوستان میں اپنے ساتھ لایا تھا۔ بابر اپنی ڈاری میں جو ترک بابری کے نام سے مشہور ہے۔ ان دونوں بھائیوں کا جایجا مذکور ہوتا ہے۔ جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کے دل میں ان بزرگوں کا کتنا احترام تھا۔ بابر کا عقیدہ یہ تھا کہ اس کا دادا امیر حوجا ایک چرواہا ہوتے ہوئے عالمگیر فارس بن گیا اور اس نے بڑی بڑی سلطنتوں کو فتح کیا یہ حضرت خواجہ عبید اللہ احرار کی دعاوں کا نتیجہ تھا۔

مدت تک اس خاندان میں مذہبی پشوپا ہوتے رہے شہنشاہ جہانگیر کا زمانہ تھا کہ اکمل خاں نے فن طبابت سیکھا۔ اس وقت سے اس گھرانے میں فن طب کا سلسلہ جاری ہوا۔ اور حکیم شریف خاں حکیم صادق علی خاں حکیم محمود خاں وغیرہ بہت بڑے اور بہت نامور طبیب پیدا ہوئے۔ اور احمد شاہ باوشاہ دہلی کے زمانہ تک اس خاندان کے ارکان شاہی طبیب رہے۔

حکیم اجل خاں حکیم محمود خاں کے چھوٹے بیٹے تھے۔ حاذن الملک حکیم عبد المجید خاں اور حکیم واصل خاں بڑے بھائی تھے۔ حکیم محمود خاں کے یہ بیٹیوں میں ایک سے بڑھ کر ایک لائق و فائق تھے۔ ہر ایک نے خوب نام پیدا کیا۔ ہر ایک نے لاکھوں بندگان خدا کی تمام عمر خدمت کی اور وہ بھی کسی ذاتی غرض کے بغیر۔

حکیم اجل خاں اور ان کے خاندان کا دستور یہ رہا کہ اگر کوئی ولیمک

یا کوئی بڑا امیر دہلی سے باہر بلاتا تو اس سے ایک ہزار روپیہ روزانہ فیس لیا کرتے تھے۔ لیکن دہلی میں کوئی امیر ہوتا پا کوئی غریب ان کے پاس آتا یا اگر پہ بلاتا۔ اس سے کوئی فیس نہیں لیتے تھے۔ اور جو دوا اپنے پاس سے دیتے اس کی صفت بھی نہیں لیتے تھے۔ اچھی خاصی قیمتی دوامیں اپنے پاس سے دے دیا کرتے تھے۔

حکیم حبیل خاں حَبِّيلُ الدِّينُ میں پیدا ہوئے۔ سب سے پہلے قرآن حفظ یاد کیا۔ گھر میں اچھے اچھے قابل استاد پڑھانے والے تھے۔ اٹھارہ برس کی عمر میں فارسی اور عربی میں منطق، فلسفہ اور ادب کی اعلیٰ تعلیم حاصل کر لی بھر فن طب کی علمی اور عملی دونوں طریقوں سے پہلے اپنے والد حکیم محمود خاں سے پھر اپنے بڑے بھائی حکیم عبد المجید خاں اور چچا زاد بھائی حکیم غلام رضا خاں سے حاصل کی۔ اس کے بعد تمام عمر اپنے فن میں ترقی اور کمال حاصل کرنے کی ہر طریقہ سے کوشش کرتے رہے۔ ان کی نگاہ میں بصیرت اور دماغ میں آزادانہ عنور اور تدبر کا مادہ تھا۔ لکیر کے فیقر نہ تھے۔ قدیم مشرقی علوم کی ہربات کے متعلق آزادانہ اور بے پاک رائے رکھتے تھے۔

طب ویدک ڈاکٹری سب کا گہرا مطالعہ کیا۔ ان کی رائے یہ تھی کہ دنیا کی کوئی طب بھی اپنی جگہ مکمل نہیں۔ ایلوو چیزی کے حریف نہ تھے۔ بلکہ میدہ ٹائلر سائنس نے جو ترقی کی ہے اس کے پورے قدر شناس تھے۔ ان کی قطبی رائے تھی کہ ہندوستانی طب میں جو چیزیں نہیں ہیں اور جو حال میں دریافت ہوئی ہیں انھیں ہندوستانی طب میں شامل کر دینا چاہیے۔ علم ان کے

نر دیک ایک جامدستے کا نام تھا۔ وہ ملی میں ہندوستانی طب کا جو بہت بڑا کالج انہوں نے تعمیر کیا اس کا تقلیدی نظام ٹھیک ان کی رائے کے موافق بنائے ہے۔ اس سے ظاہر ہے کہ حکیم اجل خار مرحوم کس قدر حقیقت پسند اور کتنے روشن خیال حکیم تھے۔ واقعہ یہ ہے کہ ہندوستان کی طبوں کو ان کی وجہ سے نئے سترے سے زندگی نصیب ہوئی۔ میرے خیال میں ہندوستان کی طبوں کے لئے ایسا ریفارمنٹ پیدا نہ ہو جاتا تو موجودہ ترقی کے زمانہ میں قدامت پسندی کی وجہ سے وہ کب کی فنا ہو چکی ہوتی۔ انہوں نے ہندوستانی طبوں کی اصلی تعلیم کے لئے اصلی درجہ کا کالج بھی قائم نہیں کیا بلکہ اس فن کی اصلاح اور ترقی کے لئے ایک جماعت پیدا کی اور ایک عملی پروگرام بنایا تا کہ ہندوستان کی طبوں کی سائنسی طریقہ سے رسیرچ کی جائے۔ جو باتیں سائنس کی روشنی میں صاف اور صحیح ثابت ہوں برقرار رہنے دی جائیں۔ یا تی حصہ جو شاہدہ اور تجربہ کی کسوٹی پر پورا نہ اترتا ہو ترک کر دیا جائے۔ اور جدید مغربی طب کی سچائیاں اور خوبیاں فراخدلی کے ساتھ ہندوستان کی طبوں کا جزو بنادی جائیں۔ منصوری پہاڑ کے دو قان قیام میں اس سلسلہ میں اپنی اور اپنے رفیقوں کی ایک دستخطی تحریر میں انہوں نے لکھا تھا۔

ہم نے آج ۲۰ جولائی ۱۹۴۹ء جمعہ کے دن اصلاح طب کا کام جو حقیقت میں طب کے لئے بہترہ اساس کے ہے شروع کیا اور ہم خدا سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمارے اس نیک کام میں مدد دے

اور ہمیں توفیق حطا فرمائے کہ اس جلیل القدر خدمت کو اپنی استطاعت کے مطابق برادر انجام دیتے رہیں۔

یہ کام ان کی زندگی میں شروع ہو گیا تھا۔ اور طب کے جتنے حصہ کی روپیہ رج ان کے سامنے پایا تھا میں کوئی بخوبی اس نے بہت سی چھپی ہوئی حقیقتوں پر سے پروہ آکھا دیا۔ اور ثابت کردیا کہ یہست سی باشیں جنہیں نئے زمانہ کی طبقی اور علمی تحقیق کا نتیجہ سمجھا جانا تھا۔ موجودہ ترقی یا فتح زمانہ کو سیکڑوں برس پہلے و نیا کے علم میں آپکی تحقیقیں۔

نظری تحقیق کے علاوہ عملی روپیہ رج کا کام بھی ساتھ ساتھ چاری تھا۔ جس کی رو سے اسلامی طب اور دیدک کی دو اوقیان کا تجزیہ دکھلیں۔ سامنے کے جدید آلات اور طریقوں کے مطابق کیا جانا تھا۔ یہ کام اپنے تک چھپے نہ پچھے چل رہا ہے۔ جس نے سامنے کی نئی دنیا سے ہندوستانی طبیوں کا رہ راست رشتہ اور تعلق جوڑ دیا ہے۔ روس اور فرانس کے سامنے و انوں نے اس کام کو دیکھ کر تعریف کی ہے۔

عالم گھمی معلومات۔ اپنے فن کے علاوہ دوسرے علوم و فنون میں بھی حکیم صاحب کی معلومات استادانہ حیثیت لئے ہوئے تھیں۔ خاص کر علوم اسلامی۔ فقہ و حدیث۔ علم کلام کے متعلق عربی۔ فارسی اور اردو میں بول اور لکھ سکتے تھے۔ تینوں زبانوں کے اچھے شاعر تھے۔ دیوان شیدا گے نام سے ان کا کلام جمنی میں چھپ چکا ہے۔ خوش نویں بھی تھے۔ اور دہلی کے مشہور خطاط میر رچہر کش کے ایک نامور شاگرد سے باقاعدہ خوش نویسی

سیکھی تھی۔ ۱۹۱۴ء میں دربار انگلستان کے سفر کے وقت سے انگریزی اخبارات پڑھنے اور سمجھنے لگے تھے۔

علمی زندگی۔ تمام عمران کی زندگی ایک طالب علم کی زندگی رہی۔ اگر دنیا میں کسی چیز کو ان کا قلبی شوق اور فطری ذوق کہا جاسکتا ہے۔ تو وہ کتابوں کا پڑھنا تھا۔ رامپور کا کتب خانہ پٹنہ کی خدا بخش لاہوری اور اپنے خاندانی کتب خانہ کو انہوں نے کھنگال ڈالا تھا۔ برش میونڈ لندن اور قسطنطینیہ کے کتب خانوں سے بعض نادر کتابیں فولوکر انہوں نے حاصل کی تھیں۔

پھر کتابوں کو صرف پڑھتے ہی نہ تھے بلکہ ان میں خود جذب ہوتے اور انہیں اپنے اندر جذب کرتے۔ بہت سی کتابوں پر جو انہوں نے پڑھی ہیں ان کے لکھتے ہوئے نوٹ اور حاشیہ نظر آتے ہیں۔ بعض مصنیفوں سے کسی بات میں ان کو اختلاف ہوتا اسے آزادی سے ظاہر کر دیا کرتے۔

تصنیفات۔ لغات طیبہ، ایک طویل کتاب انہوں نے لکھی جواب تک پچھی نہیں ہے۔ اس کا مقدمہ چھپ چکا ہے۔ رسالہ بنیں، الطاعون، وغیرہ کئی رسائل چھپ چکے ہیں لیکن اصل تصنیفات کا غذوں میں نہیں بلکہ ان زندہ انسانوں کے سینوں اور دلوں میں ہیں جنہوں نے ان کے ساتھ رہنے کا شرف حاصل کیا۔ وہ ہر سفر میں کچھ نہ پچھہ لکھتے تھے۔ اور قلم بروادشہ لکھتے تھے۔ بہت سے مرضائیں تکمیل کے محتاج رہے۔

معمول زندگی کا یہ تھا۔ صبح چار بجے اٹھتے اور دن بھر اور بڑی رات

لئے تک کام کرتے رہتے۔ مولانا بشی مرحوم فرمایا کرتے تھے کہ حکیم اجمل خاں کی اتنی محنت اور اشیعے مختلف کام دیکھ کر حیرت ہوتی ہے کہ ان کا دل و دماغ کس طرح تروتازہ رہتا ہے۔ اپنے فن میں جالینوس کی کتابوں اور شرح گیلانی کے عاشق تھے۔ شرح گیلانی ہر وقت ساتھ رہتی تھی اور اس کو بار بار پڑھتے۔ اور عجیب عجیب مطالب اخذ کرتے۔ رامپور سے ملازمت کا لعلو تھا۔ بار بار دیاں چانما ہوتا تھا۔ رامپور چنچکر ہمارے لئے پہلا حکم وہاں کی لاپری پری سے کیا ہیں لانے کا ہوتا تھا۔

دوسری۔ حکیم صاحب اپنے مذہب اور وطن کے سچے عاشق تھے۔ لارڈ ہارڈنگ سابق دائراء سے ان کی اپنی دوستی تھی۔ لارڈ ہارڈنگ کی ان کے متعلق یہ رائے تھی کہ: "حکیم اجمل خاں ہندوستان کا بہترین دماغ ہیں"۔

گذشتہ جنگ یورپ کے دوران میں حکیم صاحب نے اسلامی حمال خصوصیات کی کے سبق اس زمانہ کی برطانوی حکومت کی پالیسی پر لارڈ ہارڈنگ کو فل اسکی پسائز پر گیارہ صفحے کا ایک طویل خط کوہ منصوری سے لکھا تھا اور دلائل سے بتایا تھا کہ یہ پالیسی صحیح نہیں ہے۔ لارڈ ہارڈنگ اس زمانہ میں برطانوی مجلس و نہ رابر میں شامل تھے۔

ابھی حال میں ترکی کے ساتھ برطانیہ اور فرانس کا نیا معاہدہ ہوا ہے حکیم اجمل خاں کی بہت مدت پہلے رائے تھی کہ برطانیہ کو ایسا ہی کرنا چاہیئے اور یہی کچھ انہوں نے اپنے خط میں لکھا تھا۔ لیکن اس وقت جو جواب انہیں

ملا اس سے وہ طلبیں نہیں ہوئے۔ اسی وقت سے ان کی عام سیاسی زندگی کا دور شروع ہوا۔ ہندو مسلم سیاسی اتحاد کے وہ بہت بڑے طرفدار تھے خلافت کیلئے اور کاغزیں لکھیں میں جو ملاب پ سنہ ۱۹۳۷ء میں ہوا حکیمِ اجل خاں اس کے بہت بڑے ستون تھے۔ احمد آباد کانگریس کے وہ پریز پیدائش چنے گئے اور گاندھی جی نے اپنی نظریہ کے بعد انھیں اپنی جگہ کا گزریں کا دلکش مقرر کیا تھا۔

تمام پیدائش کا ادب و احترام کرتے تھے۔ اور نہ صرف ادب و احترام بلکہ ان کے دل میں ان کی عقیدت و ارادت کے جذبات موجود رہا کرتے تھے۔ پیدا ول کے اسپس میں اختلاف اور جھگڑے پیدا ہوتے تو اپسے موقعوں پر ان کا وجود بہت خیہت ثابت ہوتا۔ اور ان کی وجہ سے اختلافات دور ہو جاتے تھے۔

تعلیمی و پیشی۔ سیاست سے بڑھ کر ان کو تعلیمی معاملات سے دلچسپی شکھی۔ وہ سرپید احمد خاں کے زمانہ سے علی گدھ کا لمح کے مرٹی تھے۔

جامعہ طیہہ اسلامیہ جو علی گدھ میں قائم ہوا تھا۔ جس کا چلنادہاں دشوار ہو گیا تھا اسے حکیمِ اجل خاں اور ڈاکٹر الفشاری مرحوم دہلي میں لے آئے۔ اور پھر حکیم صاحب کا زیادہ وقت جامعہ طیہہ کی بقا و ترقی کے مقصد پر صرف ہوتا رہا۔

حکیمِ اجل خاں عورتوں کے لئے دلی طبیوں کی تعلیم کے بانی تھے۔ چنانچہ سنہ ۱۹۰۹ء میں مدرسہ طبیہ زنانہ قائم کیا۔ جس کا افتتاح سر لوئیں فین

سابق گورنر پنجاب کی بیکم صاحب سے کراپا تھا۔ جواب زمانہ طبیعت کا لمح کے درجہ پر پہنچ چکا ہے۔

اخلاق اور فیضانی۔ اپنی خلوت کی زندگی میں ہمیں اجمل خاں ایک پچھے صوفی اور درویش تھے۔ اس حقیقت کے آثار ان کے علاقہ کے خاص خاص لوگ ہی ہیں۔ مزاج میں نہایت متاثر۔ سمجھیدگی اور بار بار می تھی۔ کبھی مستغلقین اور ملاز میں پر غصہ نہیں آیا۔ ان کی ذاتی زندگی کے مستغلق میرے سامنے سیکڑوں اپسے واقعات ہیں جن میں سے ہر واقعہ ان کی بلند سیرت پر روشنی ڈالتا ہے۔ لیکن صرف اس ایک واقعہ کا ذکر کرتا ہوں۔ جو اس سفر میں پیش آیا جو مر جوہم کے ساتھ میرا پہلا سفر تھا۔ نو شہرہ کے برابر ماٹی نامی ایک پہاڑی مقام ہے جہاں وہ اس علاقہ کے بڑے روحاں پیشو اٹا صاحب مانگی کے علاج کے لئے ۱۹۱۶ء میں تشریف لے گئے۔ اس زمانہ میں جی۔ آئی پولی میل بینی سے پشاور تک جاتا تھا۔ اور نالگہ میل لاہور تک۔ منقامی صرفیت کے باعث حکیم صاحب شب کے گوارہ بیچے نالگہ میل سے روانہ ہوئے۔ ساتھ پولی میں اور سیرے کے بڑے بھائی اور ادريس خدمتگار تھے۔ آئیں پر اتفاق سے دیپ سے پہنچے۔ حکیم صاحب کو پہلے درجہ میں جگہ مل گئی۔ ہم دونوں بھائیوں کو دوسرے درجہ میں بھیجا تھا۔ جس کی کوئی سیدھی خالی نہ تھی۔ آخر میں ایک کپارٹمنٹ خالی نظر آیا۔ اس میں بیٹھ گئے۔ سروی کا موسم تھا۔ کتابوں اور کاغذات کے بکس اور تمام سامان حکیم صاحب کے درجہ میں رکھا جا چکا تھا۔ یوں کے ٹکٹ اور روپیہ بھائی صاحب کی جیب میں تھا۔ بھائی صاحب کو پان کھا

کا شوق تھا۔ اور یہی سے کہہ کر پانوں کی پساری اپنے پاس منگالی۔ اور یہی کوسروں کی پساری میں جگہ نہ ملی تھی۔ اس کو بھی بھائی صاحب نے اپنے ہی کمرہ میں بلا لیا کہ یہاں آکر سور ہو۔ حکیم صاحب مرحوم نے اور یہی کو حکم دیا تھا کہ صحیح ۶ بجے فیر و ز پور اسٹیشن پر جاؤ، منگانا جس ڈبہ میں ہم بیٹھے تھے وہ اتفاق سے بھروسہ اسٹیشن پر کٹ جاتا تھا۔ چنانچہ یہ ڈبہ کٹ لیا اور ناگزیر میل آگئے چلا گیا۔ فیر و ز پور اسٹیشن پر حکیم صاحب بیدار ہوئے۔ اور یہی کے چار لانے کے منتظر ہے۔ یہاں تک کہ ٹرین روانہ ہو گئی۔ نہ چار آنے نہ منہ ہاتھ دھونے کے لئے گرم پانی۔

تقریباً ایک گھنٹہ کے بعد رانے فنا اسٹیشن پر گاڑی پہنچی۔ انھیں خوب بھوک لگ رہی تھی۔ باقاعدہ ردم کے گھنٹے پانی سے منہ ہاتھ دھویا۔ پان بہت زیادہ کھاتے تھے۔ پساری دیکھی کہیں نہ ملی۔ خود گاڑی کو اترے تمام ٹرین دیکھ دی۔ دونوں شاگردوں میں سے کوئی نہ ملا نہ اور یہی خدمتگار۔ بھوک کے علاوہ اب پریشانی اور غصہ کا اضافہ ہونا لازمی تھا۔ اپنی نگاہ کی غلطی کا خیال کر کے دوسری دفعہ ساری ٹرین پھر دیکھی اور نتیجہ دیکھی رہا۔ ٹرین روانہ ہو گئی اور حکیم صاحب اپنے کی پساری میں سوار ہو گئے۔ راستہ میں عجیب قسم کا سیجان کھا۔ شاگرد کہاں رہ گئے۔ خدمتگار کو کیا ہوا۔ پان کھا کر وقت گزار سکتے تھے وہ بھی نہیں ملے۔ پنجاب کے اسٹیشنوں پر اس زمانہ میں پان نہیں ملتا تھا۔ جیب ٹولی اس میں ایک پانی نہیں۔ نہ ریل کے مکٹ۔

ادھر یار ڈیں ہم گھرا رئے۔ بھائی صاحب اٹھے اور آشیش پر جا کر سبب دریافت کیا اور مکٹ کے بنزوئے کرتا ردلو روائے۔ یہ تاریخیم صاحب کو لاہور کے آشیش ماسٹر نے پہنچایا اور بتایا کہ آپ کے آدمی بھینڈہ آشیش پر رہ گئے آپ آگے جانا چاہتے ہیں تو یہ مکٹ کے نمبر ہیں۔ آپ جا سکتے ہیں۔ حکیم صاحب وقت کے بڑے پابند اور قدر دوان تھے۔ لاہور آشیش پر ٹین تبدیل کرنی تھی۔ قلیوں کو حکم دیا کہ ہمارا سامان جی۔ آئی۔ پی میل میں رکھو۔ قلیوں نے سامان پہنچانے کے بعد اپنی مزدوری طلب کی۔ بہار حبیب میں کیا تھا جو دیا جاتا۔

ذرالتصور میں لائیے اس کیفیت کو کہ اس زمانہ کا حاذق الملک دہلی کا رہیں اغظلم لاہور آشیش پر اس قدر ہجوم میں مجبوراً قلیوں کے تقاضے سن رہا ہے۔ ان کے لئے آسان تھا کہ لاہور پھیر جاتے اور سب کچھ ہیتا ہو جاتا۔ مگر پروگرام کے مطابق چل رہے تھے۔ پھیرتے کیے۔ قلیوں کے تقاضے سے ننگ آگر فرستہ کلاس سے سیکنڈ کلاس میں سامان تبدیل کرایا۔ ایک ستون نظریہ قلی نے ننگ آگر بہار تک کہہ دیا کہ حبیب میں پیے تو ہیں نہیں۔ بصرات نے بڑے درجہ میں کر رہے ہیں۔ بہت گھرا رئے۔اتفاق سے اسی سیکنڈ کلاس میں نو شہرہ کے خان بہار مشرف شاہ سفر کر رہے تھے۔ جو کبھی حکیم صاحب سے دہلی میں علاج کر اچکے تھے۔ انہوں نے پریشانی کا سبب دریافت کیا۔ حکیم صاحب نے ماجرا سنایا۔ مشرف شاہ نے فوراً دوسرو پے نذر کئے اور حکیم صاحب

نے پھریں روپیہ قلیوں کو انعام دیئے۔ اور کھانا منگایا اور اپنے پروگرام کے مطابق شام کو نو شہرہ پہنچ کر ملا صاحب ماشی کے یہاں تشریف لے گئے۔ دو روز قیام غرما یا ہم لوگ تیرے دن سہ پہر کو نو شہرہ پہنچے اسٹیشن سے باہر ماشی جانے کے لئے بھائی صاحب سواری کا بندوبست کر رہے تھے کہ سامنے سے حکیم صاحب کی سواری آتی معلوم ہوئی جسے سلام کیا۔ ہاتھ کے اشارہ سے جواب ملا اور سب کو ساتھ لے کر پشاور روانہ ہو گئے۔ نو شہرہ سے پشاور تک ہم میں سے نہ کسی سے کوئی بات کی اور نہ کسی خدمت کا حکم دیا۔ پشاور پہنچ گئے۔ بعد صحی عبد الرشید صاحب کے یہاں قیام کیا۔ جب کھانے پر بیٹھ گئے تو میربان کے سفر کی خیریت دریافت کرنے پر حکیم صاحب نے پوری سرگزشت سنائی اور اس کے ساتھ ہماری خطائیں بغیر کسی تحريك کے معاف ہو گئیں اور آدمی کے ہاتھ دوسرے روپیہ بھجنے کا حکم دیا۔

اسی ایک واقعہ سے ان کے کیرکٹر اور ادے کی مضبوطی عالی حلگی سخاوت اور عفو کا اندازہ ہو سکتا ہے۔ یہ سفر بغیر کسی فیض کے مرحوم نے کیا تھا۔ راستہ کے مصارف مرحوم نے اپنے پاس سے ادا کئے تھے اہل اللہ سے محبت و عقیدت تھی۔ اور کبھی فیض نہ لئتے تھے۔

حکیم حسین۔ الغرض حکیم اجمل خاں طرح طرح کی خوبیوں کا ایک سنگ تھے۔ امیر بھی تھے۔ اور درویش بھی۔ عالم بھی تھے اور مدبر بھی۔ فیاضی اور ایثار میں ان کا درجہ بہت اوپر ہے جس کی زندگی یادگار یادویہ

یونانی طبیعت کا لمح و پی اور ان کا قائم کیا ہوا ہندوستانی دو اخانہ ہے جو کا لمح کے لئے وقف اور جس کی آمدی سے طبیعت کا لمح جیسا ادارہ چل رہا ہے۔
مُنْوَّهٗ بِهِ لِحَاظَةٍ سَعَى إِلَيْهِ زَنْدَگَى مَلَكٌ كَمَا كَمَا يَعْلَمُ
لکھنؤتھے۔ ہر لحاظ سے ان کی زندگی ملک کے ہر نوجوان کے لئے ایک فائدہ بخش
لکھنؤتھے۔ دنیا میں عزت اور مرنے کے بعد زندگہ رہنے کا یہی راستہ
ہے۔ جس نے بھی حکیمِ اجلی خاں کی طرح یہ راستہ اختیار کیا کامیاب ہوا۔ سچی
خوشی غریبوں کے ساتھیں کی اور بھلانی کرنے میں ہے۔ ایسی نیکی اور بھلانی
جس میں نام کی شہرت اور ذاتی غرض کا کوئی شایستہ نہ ہو۔

میں یہ کچھ کہدا ہوں اور ان کی زندگی کا ایک ایک واقعہ میرے
سامنے آ رہا ہے۔ جو اس حقیقت کی تصدیق کرتا ہے۔ میری نگاہوں نے جو کچھ
انھیں دیکھا ہے اس سے نہ معلوم میں انھیں نہ معلوم میں انھیں کیا کیا مانتے
پڑھیو رہوں لیکن جو کچھ میں نئے مختصر آبیان کیا ہے اس کے سنتے والے کم انکم
انٹا تو ضرور مانیں گے ہے

ہزاروں سال نگرانی پے نوری پروتی ہو
بڑی مشکل سے ہوتا ہے جن میں یہ وہ پیدا

حکیم فیضی احمد دہلوی

ڈاکٹر انصاری

ڈاکٹر مختار احمد صاحب انصاری مرحوم سے آپ حضرات کسی نہ کسی واسطہ اور حیثیت سے بخوبی واقف ہیں اور بہت ممکن ہے کہ بعض ایسے بھی ہوں جو بحث سے بھی زیادہ ان کو جانتے اور سمجھتے ہوں۔

میرا واسطہ تو ان کے پیشہ کی ابتدا اور کامیاب زندگی کے آغاز کے آخری و قسم تک یہی رہا ہے۔ میں جو کچھ عرض کر دیں گا وہ اسی زمانہ کے حالات اور واقعات پر متعلق ہو گا۔

ڈاکٹر صاحب مرحوم دوستی کے لیے اور سروت کے سچے تھے۔ جو ان پر بھروسہ کرتا اس کے دلکھ درد کے برابر کے شرکیں بن جاتے۔ دوستی کا حق بطور فرض ادا کرتے تھے۔ اپنے حلقہ احباب میں تقریباً ہر ایک کے معتمدہ دلی دوست تھے۔ ہر ایک کے زاویہ نگاہ کو خود خوب سمجھتے تھے لیکن اپنی اولو العزمی سے کسی کو اپنے جیتے جی یہ احساس نہ ہونے دیا کہ وہ ان کو بھی سمجھے لیتے ہیں جو ان کو نہیں سمجھتے۔ دوستی میں خاص و عام کا فرق ان کے یہاں نار و ایکھا۔ وہ سب ہی کے ناز بردار تھے۔ اور سب سے نیازمندی سے پیش آتے۔ ان کی نیازمندی میں بھی ایک شان بے نیازی تھی۔ ارادہ کے مضبوط بات کے دھنی اور طبیعت کے غنی تھے۔ جو سوچتے وہ کر کے رہتے۔ اور جو کرتے اس کے ہر ہیلو پر نظر رکھتے برصیدت میں مطمئن پڑتا ہیں۔

میں پر سکون ہوتے اور زیادہ سے زیادہ سوچتے تھے۔ ہمیشہ نبی تلی بات کہتے اور جوچی رائے رکھتے تھے۔ گودہ خود صاحب رائے رکھتے اور واقعات شاہد میں کہ ہر اعتمدار سے مانے ہوئے لوگوں میں سے تھے۔ مگر انہی منوانے پر کبھی نہ اٹھتے۔ دوست تو دوست دمُن کو بھی سمجھاتے اور رام کر لیتے تھے۔ ان کو دل اور ہاتھ دنوں ہی قدرت نے کھلے ہوئے دیتے تھے انہی دو یادی سو عزیز دل اور دوستوں کے ہمیشہ کفیل رہے۔ آئے جانے والوں اور ملاقاًتیوں کے کام آتے تھے۔ مرضیوں کے ہمدرد و دکھلوں کے در دمنہد۔ علم دوست۔ علم پرورد تھے۔ اپنے ہمسایہ اور مخلص پڑوں سی تھے بڑھوں میں با ادب اور بچوں پر یقین اور بے تکلف بھرطب میں خلیق اور پاوقار۔ لھر کی زندگی میں بے ریاضا رکھتے۔ ان کی محبت مندرجہ بھی نہ ہوتی اور نہ وقت اور صلحت کی پابند تھی۔ ان کی مرمت پڑھ پیچھے بھی بچنسہ برقرار رہتی اور ہر وقت کام کر جاتی تھی۔ اپنے دوستوں کے حاضر و غائب میساں بھی خواہ تھے۔ ان کو کسی پر کبھی شک نہ ہوا اور نہ بھی کسی سے عداوت ہوئی۔ جن سے دل گرفتہ ہوتے ان کو بھی معاف کر دیتے گئے شکوہ اگر کرتے تو رُردُر کرتے۔ احباب تو احباب میں نے اغیار کو بھی ان پر وثوق کرتے دیکھا ہے۔ اور یہ امر واقعہ ہے کہ غیروں کے آڑے آتے رہے اور اس طرح کام آتے جس طرح ان کو ضرورت اور توقع ہوتی تھی۔ یہ عجیب انداز تھا کہ احسان کرتے اور خود شرمندہ احسان بھی ہوتے۔ کیا زالی ادا تھی کہ سلوک کرتے اور سدا بھول جاتے تھے۔

اپنوں (جنہیں وہ اپنا تصور کر بھیتھے تھے) اس وقت تک نباہ کرتے جب تک کہ وہ ان سے بالآخر لگ ہو کر دوسرا راہ نہ لگ جاتے۔ پھر بھی ان کے آئندے کی امید رکھتے تھے۔ اپنے نیک نیت مخالف کا احترام بھی باوجود اختلاف رائے کے حاضر و غائب بھیتھے ملحوظ رکھتے۔ زیادہ سے زیادہ اختلافی بحث میں بھی ذاتیات سے بالارہ کر بھٹ نفس معاملہ تک محدود رکھتے تھے۔ ڈاکٹر صاحب مرحوم بجا طبق اخلاق مذہبی آدمی تھے۔ اس لئے بلا تفرقہ ہر ذہب اور ہر فرقہ کا احترام ان اخلاق کا نمایاں پہلو تھا۔ بنی المذهب حقیقی المشرب تھے۔ بدعت سے پرہیز اور صبالغہ سے احتیاط برستے۔ نمازوں جب بھی پڑھتے خلوص قلب سے پڑھتے ان کی نمازوں ریا کاری سے خالی اور اثر میں ڈولی ہوئی ہوئی تھی۔ رمضان کے روزے بڑی احتیاط اور اہتمام کے ساتھ پورے تین دن رکھتے۔ صدقہ۔ زکوٰۃ۔ حیراث اور حنات میں مسحوقین کو پہلے دیتے۔ ہم میں سے کسی کو نہیں معلوم کہ ان کی چیپ اور بیوہ پر کس کس ضرورت میں کی حاجت روائی کا بارہ تھا۔ اور کس طرح یہ ان لوگوں تک خود پہنچ جاتے تھے۔ اور یہ تو میں نے ہزار بار دیکھا کہ بے روک ٹوک ہر حاجت میں ان تک پہنچ جاتا تھا۔

مطہب میں ہر حلقة اور ہر طبقہ کے مریض آتے تھے۔ اچھے بھی اور بُرے بھی۔ بلجافت ڈاکٹر ہونے کے کسی سے انکار کرنا تو ناممکن تھا۔ ان سے کیونکر انکاری ہوتے۔ مگر مجھ پر تاکید تھی کہ ایسوں سے فیں ہرگز نہ لو جن کے پیشے میعوب مشتبہ اور نارواہوں۔ مجھ کو یاد ہے کہ اس سلسلہ پر

مرحوم نے فتویٰ بھی لیا تھا۔

بہ اعتبار خط و خال ڈاکٹر صاحب مرحوم حسین تو نہیں کہے جاسکتے تھے مگر دیدہ زیب ضرور تھے۔ ان کے بشرہ میں کچھ بھی جاذبیت اور کشش تھی۔ چھرو پر خاص طرح کا اطمینان۔ آنکھوں میں خود اعتمادی اور ہمہ دی صورتیں۔ انداز نرم۔ بول چال ٹھیکی۔ پیشائی کشادہ اور بلند۔ میانہ قد۔ ہونٹوں پر ہر وقت مسکراہٹ جو نہ خندہ ہوتا نہ عجم۔ رہ بھری آواز۔ ادا سے چارہ گریافتہ سے سراپا اخلاص و اعتماد تھے۔ ہنسی دل لگی میں نہایت شستہ اور شاستہ۔ سخیدہ مذاق خود بھی کر جاتے۔ اور دوسروں کے فقرہ کی داد بھی دیتے۔ ایک مرتبہ ڈاکٹر سید عبد الرحمن صاحب نے ”اپریل فول“ منے کی سوچی۔ دفتر سے کوئی کوئی سلیفون کیا۔ کہ ان کی مٹھم طبیعہ کا رسے مکرانی سخت چوٹ آئی۔ ڈاکٹر صاحب، مرحوم الجی تیار بھی نہ ہو پائے تھے بس جیسے تھے اسی طرح بن ہا تھا منہ دھوے چل پڑے۔ فتحپوری پہنچنے تو گھبرائی کا یہ عالم تھا کہ خود ڈاکٹر عبد الرحمن صاحب ہی تھے ان کی خیرت دریافت کرتے رہے اور جب اس مذاق کی نوعیت معلوم ہوئی تو ہبہت ہنسے اور پھر خود بھی دوسروں کو بنانے پر اتر آئے۔ دفتر کا مریض میں سلیفون ہوا اور کچھ اس طرح گھر کر خبر سناتی کہ وہاں سے مولانا مرحوم اور ان کے گھر کے لوگ بی اماں دیغیرہ گاڑیوں میں بیٹھے موری دروازہ ڈاکٹر صاحب کی کوئی پہنچے اور کوئی پر سلیفون کیا گیا تھا کہ بھائی محمد علی صاجب کی گاڑی الٹ گئی اس لئے سیکم صاجبہ ڈاکٹر انصاری مرحوم کو کچھ چیلان

میں مولانا کے گھر پہنچ گئی تھیں۔ وہ لوگ یہاں حیران اور بیگم صاحبہ مرحوم وہاں پریشان۔ ان میں سے بعض محتوا ڈی دیر کے لئے بہم بھی ہوئے اور جو خفا رہوئے وہ پچھہ شرمذہ بھی ہوئے۔

ڈاکٹر صاحب مرحوم ایک دفعہ رات پورے رات کی گھاڑی سے جا رہے تھے۔ برات کی رات۔ ہوا بند۔ سڑی گرمی۔ ڈبہ میں اکس اور پیٹ فارم پر گھس۔ گرمی اور گھٹن سے پریشان۔ پینہ سے تربت۔ چاہتے تھے کہ جلد استراحت کریں اور پیچے چلا میں کہ پچھے ہوں گے اور تکمیل ہو کہ ایک بزرگوار اس طرف آنکھے جو بھی ملپٹ تھے۔ اور اب اپنے آپ کو دوست اور وہ بھی بے تکلف دوست لتصور کر سکتے تھے آتے ہی انہوں نے اپنی سب کچھ حالت ایک سانس میں سنادی تو مرحوم نے حسب ضرورت پچھہ تکمیل بیرا اور پچھہ ہدایت کردی مگر اس سے ان کی کچھ بہت تشفی نہ ہوئی اور ہوتی کیسے۔ بھلا ایسی ضرورت تکمیل کیں اس طرح پوری ہوا کر لی تھیں۔ سمجھتے سمجھاتے اور دیر بھتی گئی۔ ان کے حسب حال جواب دیتے ہوئے ڈاکٹر صاحب مرحوم بستر پر لیے ٹو یہ حضرت کھڑکی پر ہاتھ رکھ کر اپنی کہنے لگے اور اصرار کہ سنتے بھی رہیے۔ اشارہ کنایہ کی تو صاف مال جاتے تھے اور صان گوئی گوئی جاتے۔ پچھہ دیر میں سمجھتے اور سمجھتے تو جھیپٹ مٹانے کو بے تکلف پڑا تھا۔ خکوہ کے انداز میں کہنے لگے۔ ڈاکٹر صاحب اب تو آپ آم بھی نہیں کھلاتے۔ مرحوم نے فرمایا۔ ”کیوں صاحب کیا لگڑا ہر وقت ملتہ رکھوں؟“ خیر سے ایک اصلی اور دسری نقلی مانگ پر لگ کرتے ہوئے کھڑکی سے الگ ہوئے یہ اتفاق کہ ان کی مانگ کا آپریشن ڈاکٹر صاحب نے

ہی کیا تھا۔

مرحوم کو کھانے اور کھلانے کا بے حد لطیف ذوق تھا۔ اور اپنی تیز تھی۔ ان کی مہماں نوازی دو روزہ پیک مشہور تھی۔ ہندوستان کے اور پاہلے کے مہماں اکثر رہا کرتے تھے۔ جب کوئی مغربی مہماں ہوتا تو بالا ہتمام مغلی کھانے پکوانے اور کھلاتے تھے۔ ان کے ترکی اور مصری دوستوں نے بے تکلف دلی کی ب瑞انی شب دینے سخن کباب اور پنڈے کھائے تو اس کی ترکیب بھی سکھنے کی فرمائش کی جنوری ستاد میں آخزمی نوبت ویانا کے ایک ڈاکٹر پروفیسر سیجو کر کی میزبانی کی آئی جو سیاحت کے لئے ہندوستان تشریف لائے تھے۔ ان کی مدارات کے لئے ب瑞انی پکوانی تو اس میں ہری مرٹ کے دانے اور کوفتے بھی ڈلوائیس پروفیسر کو یہ ترکیب اس قدر پسند آئی اور ب瑞انی اتنی بھائی کہ بے قابو ہو کر بارہ بار منگانی اور خوب کھانی۔ لطف یہ کہ خود بد دلت معدہ ہی کی بیماریوں کے ماہرا اور معالج کی حیثیت سے میں لا قوامی شہرت رکھتے تھے۔ کم کھانے پر ہر رفع اور دوست اچب سے ان کا اصرار جاری رہتا تھا۔ مگر اس وقت تو کم از کم بھول ہی گئے تھے ماکھانے کے بعد بھی دیر تک پکانے کی اس ترکیب کو سراہتے رہے۔

ڈاکٹر صاحب مرحوم کو علم اور تعلیم سے خاص شغف تھا۔ ہر صاحب شوق پہان کی نگاہ پڑتی اور اس کی سرپرستی اس طرح کرتے گویا ان کا ہی فرض تھا۔ اپنی اس مختصر زندگی میں آدھے درجن اچب اور انہوں کو

یورپ تعلیم کی خاطر اپنے بیل بوتے پر بھیجا اور آخر تک ان کی کفالت نہ تھا ادویہ الغزی کے ساتھ کرتے رہے۔

مغربی تعلیم کے لئے ان کا ایک اصول تھا کہ جن کا انتخاب کیا جائے وہ زیادہ سے زیادہ اپنی تہذیب اور مدنیت میں پختہ اور مضبوط ہوں ٹاکہ مغرب کی سلطنتی دلخواہیوں میں گمراہ ہو جائیں۔ اسے حسن اتفاق ہی سمجھتے کہ دولات میں عرصہ تک رہے اور ایسی جگہ رہے جہاں سے محلی محسن اور معاشر کو اچھی طرح دیکھ سکے اس لئے اپنے بھرپور اور گہرے مطالعہ کی بناء پر ان کو اپنی رائے پر اصرار کا حق بھی تھا۔ اس طرح مردمی کے انتخاب کی بابت وہ ایک اصول کے پابند تھے۔ ان کی رائے بتتی کہ اس کو ایک نہ سکی طرح لڑکوں کا اعتماد حاصل کر لینا چاہیئے اور طلب علم سے بے تکلف دوستی پیدا کر لینی چاہیئے۔ تاکہ ہر وقت ایک شخص دوست کی طرح اس کی مشکلات میں دوست طور پر کام آئے۔ بعض رعب دا ب سے کام لینے والے اکثر حالات سے بے خبر رہا کرتے ہیں اور بعض اوقات تو قصد اپنے خبر رکھے جاتے ہیں جس کا انجام اکثر دشیر تکلیف اور راویوں کی ہوتا ہے۔

ان کا خیال تھا کہ برائی کو برائی سمجھنے کی پختہ سے پختہ عادات بھی ما حول پر لئے ہی کمزور پر جانی ہیں اور سخت صوابط اور پابندیوں کے پرداختہ اور پروردہ کانی بے باک اور جزوی ہو سکتے ہیں بعض ایسے مراحل سے بھی ان کو گزرنا پڑتا تھا جہاں وہ ایک نیک نیت اور جلوس

کی دستگیری کے محتاج ہوتے ہیں اس مرحلہ پر وہی بے تکلف اور ہوشیار
مرجیٰ ان کے آرے آتا ہے جو قدر دیا میں تختہ بندی کے ساتھ ہی ساتھ
دامن چڑکن اور ہوشیار باش بھی کہہ سکتا ہے۔

انھیں اصول اور رائے کی بنابر پر تو اپنے عزیز بھائی نے ڈاکٹر شوکت اللہ
شاد انصاری کو ایک خط میں لکھتے ہیں کہ تم پر دلیں میں ہو جہاں تم کو
ایک مخلص اور بے تکلف دوست کی ہر وقت اور ہر ہر قدم پر اب
ضرورت محسوس ہوئی ہو گی۔ ڈاکٹر بحث وہی میرے مخلص دوست
اور تھارے سر پست اور نگران حال ہیں میں جانتا ہوں اگر تم
چاہو اور ہمیری رائے میں ضرور چاہو تو وہ تھارے بے تکلف دوست
ہو سکتے ہیں۔ تم کو اس کی ضرورت ہے اور آیندہ اور ہو گی۔ ان سے
اپنی ہر طرح کی فکر اور ضرورت کہو۔ وہ تھاری ہر طرح مدد کریں گے
تم ابھی بحث کو اتنا نہیں سمجھ سکے ہو گے جتنا میں جانتا ہوں میں نے
دنیا دیکھی ہے۔ مجھ کو تھاری دناغی اور روحانی مشکلات اور کشاکش
کا اندازہ ہے۔ وقتاً فوقتاً اپنے دل کی مجھ سے بھی اگر کہتے رہو تو میں
بہت مطمئن اور خوش رہوں گا۔ میں بہت خوش ہوں گا اگر مجھ کو ماموں
ہوتے ہوئے بھی اپنا ایک مخلص دوست سمجھ لو۔ کیا ماموں دوست نہیں
ہو سکتا ہے یہ وقت مجھ پر بھی گزر آئے۔ کوئی اس اخلاص کا جو آج تم کو
پیسہ ہے۔ محتاج تھا۔ میرے جو عزیز تھے وہ اگر کچھ تھے تو محض ہر پست
اور ایک خاص زادیہ نگاہ رکھتے تھے۔ میں ان کی طرح اپنے اثر سے

تم کو ڈرانا پسند نہیں کرتا۔ میں چاہتا ہوں کہ تم میں خود اعتمادی پیدا ہو۔ تم خود اپنے نگران آپ بنو۔ وہی سے تھیں کافی مدد ملے گی۔ اور میری عین راحت سمجھ کر اپنے دل کی کہتے رہو۔ اور میں اپنے دل کی تم سے کہتا رہوں گا۔

مرحوم کی قدامت پسندی میں لچک تھی۔ نئی روشنی سے نہ تو انہیں بیخ لیا تھا۔ اور نہ چکا چوند ہو گئے تھے۔ زمانہ کے ساتھ سلامت روی کے ساتھ چلنے کے حاوی تھے۔ نئے اور پرانے زمانوں کے درمیان کی ایک فربی کڑھی تھے۔ اس لئے اعتدال پسند تھے۔ ان کے پیش نظر ایک روشن مستقبل تھا جس کی تعمیر میں وہ ہر پہلو سے مصروف تھے۔ آنے والی نسل میں اسی صلاحیت اور استعداد پیدا کر جانا چاہتے تھے جو اس کی تکمیل میں زیادہ جوہر لے سکے۔ ہاتھ پر ہاتھ رکھے منہ دیکھتی ترہ جائے۔ یہ عجیب خوبی تھی کہ جیسے مرتبہ کے سرجن تھے اسی درجہ کے فرزیشن بھی۔ ڈاکٹروں میں آج تک یہ بحث ہو جاتی ہے کہ سرجن ان کو بہترین سرجن اور فرزیشن پختہ کار فرزیشن سمجھتے ہیں۔

شروع ہی سے اپنی خاص برادری یعنی ڈاکٹروں میں آنا کا ان ان کو گراں تھی۔ اس کی اصلاح کے لئے میڈیکل ایوسی ایش کی بنیاد 1912ء میں رکھی جس کے پہلے صدر آجہانی ڈاکٹر عطر چند صاحب ریاضار ڈسول سرجن تھے۔ شہر کے آزاد مرطب کرنے والے ممتاز ڈاکٹروں اور ملازمت پیشہ صاحب مرتبہ سر جنوں اور فرزیشنوں کو مہر پایا جائے

کئے اور کرتے رہے۔ یہاں تک کہ ان کی باہم اجنبیت اور نظرت بہت حد تک کم ہوئی گئی۔ لارڈ ہارڈنگ بالقاہ بھم کے اسٹاف سرجن کرنے والیں کو میں نے انھیں اچلاسوں میں دیکھا تھا اور عایاں حصے لیتے دیکھا تھا۔ داکٹر صاحب مر حوم اپنے ساتھہ سہیشہ ایک دلوں جوان اور نوآمنہ داکٹروں کو بطور اسٹنٹ شرپیک رکھا کرتے تھے۔ کیوں نہ ہو بڑے تھے اسی لئے تو چھوٹوں کو نواز اکرتے یقینیم کار کے قائل۔ ہر کار سے اور ہر درجے پر عامل تھے۔ ہمہ گیر مطب اور ہمہ دانی کے دعویٰ سے سخت متنفس تھے۔

اسے کشف صدر کئے یا یخیر شعوری احساس۔ ایک دن کا واقعہ ہے کہ جامع مگر اولکھا دیکھنے لگے، جوز پر تعیر تھا۔ خواجہ عبد الجید صاحب بیرون شرالہ آبادی اور داکٹر ذاکر حسین صاحب بھی ساتھ تھے۔ چلتے پھر تے اس ٹیلے پر آن کھپڑے۔ فور تک کچھ سوچا اور صردی کھوڑا۔ کہنے لگے بھائی خواجہ مجھ کو تو یہ جگہ بہت ہی پسند آئی۔ شیخ الجامعہ سے محفوظی کی زمین دلو اور تو یہیں ایک چھوٹا سا مکان بنالوں اور شوک کے داکٹر شوکت اللہ کو پیار سے شوکو کہا کرتے تھے، آجائے کے بعد بس کار دوبار سے علیحدہ ہو کر یہاں رہوں گا۔ جامعہ سامنے اور جامعہ کے بچے ہمارے پڑوں سی کے معلوم تھا کہ ان کے اس خواب کی تغیریوت کے بعد اس طرح پوری ہوگی۔

علامہ اقبال

اقبال مرحوم کے متعلق کچھ کہنے سے پہلے میرے لئے یہ واضح کر دینا ضروری ہے کہ میں ان کے ذاتی دوستوں میں سے نہیں تھا۔ میری حیثیت صرف ایک عقیدہ تند کی تھی اور ہے۔ اقبال کا کلامِ محض پ سنا کرتے تھے۔ سالہا سالی سے یہ خواہش تھی کہ جس شخص کا یہ کلام ہے اس سے ملاقات بھی کی جائے۔ جب میں کالج کی تعلیم کے لئے لاہور آیا تو یہ خواہش اور بھی بڑھی۔ اقبال کو دعیے کا پہلا موقع بھی اس وقت ملا جب وہ اسلامیہ کالج لاہور کے ہال میں "اسلام اور اجتہاد" کے مضمون پر لکھ رہا ہے۔ یہ ۱۹۲۵ء کے فریب کا واقعہ ہے۔ اقبال کی صحت اس وقت بہت اچھی تھی۔ زنگ سرخ و سفید تھا۔ سر پر ترکی ٹوپی تھی اور انگریزی سوت پہنے ہوئے تھے۔ ان کی موجھیں اوپر کو چڑھی ہوئی بہت شاندار معلوم ہوئی تھیں۔ پکھر لمبا تھا اور وہ آہستہ آہستہ بول رہے تھے۔ لیکن کبھی کبھی جوش بھی آ جاتا تھا۔ خاص طور پر جب انہوں نے لکھر کے دوران میں ترکی شاعر خیاکی ایک نظم نای تو ان کی آواز میں ایک گونج پیدا ہو گئی تھی۔

یہ پکھر سنتے کے کچھ عرصہ بعد میں اور میرے دوست نیاز محمد خاں صاحب جو آج کل بنگال گورنمنٹ کے انڈر سکرٹری ہیں اقبال کے

مکان پر گئے۔ اقبال اس زمانہ میں میکلود روڈ لاہور پر ۱۹۴۳ کی کوئی
میں ہتھے تھے۔ اس احاطے کے دروازے پر ایک پرانا سا بورڈ لگا ہوا تھا۔
ہم اندر گئے۔ تو اقبال کو برآمدے میں بیٹھا دیکھا۔ معلوم ہوا کہ کار ڈبھجتے
کی کوئی ضرورت نہیں ہے اور جو آتا ہے سیدھا جا کر مل کیتا ہے۔ باوجود
اس کے ہم نے مناسب سمجھا کہ ملنے کی اجازت مانگیں۔ چنانچہ اجازت مل
گئی۔ کچھ اور لوگ بھی بیٹھے تھے۔ اقبال نے بڑی فہریانی کے ساتھ ہم سے
باتیں کرنی شروع کیں۔ جب دوسرے لوگ امتحان کرنے تو ہم نے ان کو مختلف
سوالات پوچھنے شروع کئے۔ مجھے یاد ہے کہ میں نے ان سے ایک سوال
یہ بھی پوچھا کہ آپ خدا کیستی کو کس بناء پر ملتی ہیں۔ انہوں نے جواب
دیا کہ میں نے اسے دیکھا ہے، یہ جواب انہوں نے نہایت متاثر سے
دیا۔ مجھے ان کا لمحہ آج تک یاد ہے۔ اس کے علاوہ کچھ اور باتیں بھی ہوئیں
اور تھوڑی دیر میٹھ کر ہم واپس چلے آئے۔ اس ملاقات نے ہم دونوں کی
ہمت بندھائی۔ اقبال کے انداز میں نے رعونت بالکل نہ دیکھی۔ وہ ہمارے
ساتھ جو کوئی محض طالب علم تھے اسی طرح گفتگو کر رہے تھے۔ جیسے اپنے برادر
کے لوگوں کے ساتھ کی جاتی ہے۔ اس کے بعد ہم لوگوں نے ان کے پاس
باقاعدہ چانا شروع کر دیا۔ میں اس ملاقات کے بعد قریباً آٹھ سال لاہور
میں رہا اور جب بھی موقع للان کی خدمت میں حاضر ہوتا رہا۔ اقبال
کے ملاقاتی ہر قسم اور ہر طبقے کے لوگ تھے۔ ان میں فلسفی۔ ریاضی دان۔
سائنس دان۔ پروفسر اور طالب علم بھی تھے اور شہر کے ہپلوں بھی۔

بڑے بڑے ایمیر اور فرعون طبیعت آدمی بھی ان سے ملنے آتے تھے اور غریب اور مفلس لوگوں کے لئے بھی ان کا دروازہ کھلا تھا۔ میں ننان کے پاس ہندوستان، سکھ، عیسائی، پارسی، انگریز، امریکن بھی کو دیکھا جن لوگوں کے سیاسی چالات ان سے ملتے تھے وہ بھی دیکھے اور جو سیاستیات میں ان کے مقابل تھے وہ بھی۔ اقبال ہر ایک کے ساتھ خلوص اور پتاک سے ملتے تھے اور ہر مضمون پر پوری آزادی سے گفتگو ہوتی تھی۔ ان کے پاس سب سے زیادہ نوجوان طالب علم آتے تھے۔ اور صرف لاہوری سے نہیں بلکہ دور دور سے۔ اس کے علاوہ باہر کے ملکوں کے سیاح بھی آتے رہتے تھے۔ اقبال کو نوجوانوں سے مل کر اور ان سے باتیں کر کے بہت خوشی ہوتی تھی اور ان لوگوں کو بھی ایسا معلوم ہوتا تھا کہ اقبال ان کے ہم عمر ہیں۔

اقبال کی طبیعت میں یہ خاص باتیں تھیں کہ جس شخص کے ساتھ بات کرتے تھے اس کے مطلب کی کرتے تھے۔ میں نے انھیں پہلوانوں کے ساتھ داومیج کے متعلق مزے لے لے کر گفتگو کرتے بھی دیکھا ہے اور تجارت پیشہ لوگوں کے ساتھ کاروباری معاملات پر بحث کرتے بھی اور یونیورسٹی کا نامائشی بھیں نہیں تھا۔ بلکہ ان کے پاس بیٹھ کر کبھی کسی کو یہ محسوس نہیں ہوتا تھا کہ وہ اسے حیر سمجھتے ہیں۔ واقعہ بھی یہی تھا کہ وہ کسی کو حقیر نہیں سمجھتے تھے۔ مجھے یاد ہے کہ میرے ایک عزیز دوست نے ایک دفعہ ان سے کہا کہ خدا نے ضرورت سے زیادہ انسان پیدا کر دیئے ہیں اور ان میں سے اکثر کی زندگی بے معنی ہے۔ اقبال نے اس رائے سے اتفاق نہیں کیا۔ بلکہ جوش سے کہا کہ ہر ایک

انسان اپنی اپنی جگہ پر ایک مستقل حیثیت رکھتا ہے اور کسی کا وجود بیکار نہیں ہے۔ پھر کہا کہ اس حقیقت کا پتہ اس وقت چلتا ہے جب ہمیں کسی شخص سے اچھی طرح سابقہ پڑھے اور ہم اسے فریب سے دیکھیں۔

ان کی گفتگو موقع کی مناسبت کے لحاظ سے انگریزی اور پنجابی میں ہوتی تھی۔ پنجابی نہایت بھینجھڑ بولتے تھے۔ میں نے ان کی زبان کو بہت سے نئے نئے الفاظ اور خاص الخاص محاورے سے جو میں نے باوجود پنجابی ہونے کے اور کہیں نہ سئے تھے۔ زبان میں تصنیع نام کو نہ تھا۔ انگریزی یا اردو یا پنجابی جو بھی بولتے تھے اس میں بنادی لمحے کا گمان بھی نہ ہوتا تھا ان کا مقصد ہمیشہ کبھی ہوتا تھا کہ اپنا مطلب بیسیح اور سادہ طور سے ادا کریں لباس کے معاملے میں بھی وہ کسی خاص وضحت کے پابند نہ تھے۔ شام کو جب گھر کے برا آمد ہے میں بیٹھتے تو کبھی کبھی انگریزی سوت پہنچتے ہوئے تھے۔ کبھی صرف ٹمپیس اور شلوار اور کبھی کبھی بیان اور چادر ہی پہنے ہوتے تھے۔ گھر سے باہر کبھی کوئی خاص لباس خصوصیت کے ساتھ نہیں پہنچتے تھے انگریزی لباس بھی ہوتا تھا۔ ٹمپیس اور شلوار اور جیسوٹا کوٹ بھی جو پنجابیوں کا خاص ہے۔ کبھی کبھی ٹمپیس اور شلوار کے ساتھ کھلے ٹھلے کا لمبا کوٹ بھی پہن لیتے تھے۔ سر پر کبھی ترکی ٹوپی۔ کبھی ایک اور کالی سی ٹوپی جس کا ایک زمانے میں پنجاب میں بڑا دروازہ تھا اور کبھی مشہدی لنگی ہوتی تھی رات کو کہیں کسی انگریزی طریقے کی دعوت میں بلاست جاتے تھے تو انگریزی سوت کے ساتھ اکثر ایک بندھی بندھائی نکھائی لگا لیتے تھے۔ گھر پر خواہ

بیٹھتے ہوں خواہ لیٹئے حقہ ساتھ موجود رہتا تھا۔ عام طور پر ان کے ملاقاتیوں میں سے کوئی شخص ان کی اجازت کے بغیر حقہ کو ہاتھ نہیں لگا سکتا تھا جوں جوں کش لگاتے تھے ان کے خیالات کی رفتار زیادہ ہوئی تھی۔ حقہ کی آگ ذرا مدد حتم ہو جاتی یا لمبا کو بدلوانا ہوتا تو فوراً آپنے نوکر علی بخش کو آواز دیتے تھے۔ یہ علی بخش ان کو ان کی طالب علمی کے زمانہ سے چانتا تھا اور بڑے عرصہ سے ان کے پاس نوکر تھا۔

اقبال کے بس کی سادگی کے سلسلہ میں مجھے ایک ڈچپ واقعہ یاد آگیا ایک دن صحیح کے وقت کچھ لوگ اقبال کے پاس بیٹھے تھے میں بھی موجود تھا۔ اقبال برآمدے میں بیٹھے حقہ پر رہے تھے اور صرف بیان اور چادر پہننے ہوئے تھے۔ اتنے میں دو فوجی جوان جو وضع قطع سے شمالی پنجاب کے کسی ضلع کے رہنے والے معلوم ہوتے تھے خاموشی سے ہمارے پاس اگر ایک طرف کو کرسیوں پر بیٹھ گئے۔ اور کچھ عرصہ تک چب چاپ بیٹھے رہے اتنے میں جب اقبال کے ایک دوست جوان کے قریب بیٹھے تھے اٹھ کر پاہر کی طرف گئے تو ایک فوجی جوان نے مجھ سے پوچھا کہ یہ صاحب کون ہیں میں نے ان کا نام بتایا۔ اس پر اُس نے مجھ سے پوچھا کہ ترجمان حقیقت حضرت علامہ ڈاکٹر سر شیخ محمد اقبال ایم۔ اے۔ پی۔ ایچ۔ ڈی بیرسٹریٹ لا سپریلیٹیو کونسل پنجاب کون سے ہیں۔ مجھے اس پرہنسی آگئی۔ ایک صاحب نے پوچھا کیوں سہستے ہو۔ میں نے فوجی صاحب کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ یہ صاحب ترجمان حقیقت حضرت علامہ ڈاکٹر سر شیخ محمد اقبال ایم۔ اے۔

پی. ایچ. دی. بیر سٹرائیٹ لاہور یونیورسٹی کو نسل پنجاب کی تلاش میں ہیں اور ابھی تک مل نہیں سکے۔ اس پر ایک تحقیقہ پڑا اور اقبال بھی اس میں شامل ہوئے کسی نے ان فوجی صاحبوں سے کہا کہ یہ دیکھو تو تھارے سامنے اور کون بیٹھا ہے۔ اس پر ان فوجی نوجوانوں کو اس قدر تعجب ہوا کہ دیکھنے سے تعلق رکھتا تھا۔ اقبال ان سے بڑی مہربانی کے ساتھ پیش آئے معلوم ہوا کہ وہ دونوں رسالے میں نوکر تھے اور کسی پی سے کچھ عوصہ کی جھٹی لے کر اپنے وطن ضلع شاہپور کی طرف جا رہے تھے۔ انہوں نے اقبال کا نام سن رکھا تھا اور شاید ان کی ایک آدمی نظرم بھی پڑھی ہوئی۔ وطن جانے جاتے ہیں اقبال کی صورت دیکھنے کے لئے لاہور اترے تھے۔ ان کا خیال تھا کہ اقبال بڑے نھاٹھ کے آدمی ہوں گے کم از کم یہ توان کے وہم میں بھی نہ تھا کہ وہ انھیں صرف بنیان اور چادر چینے ہوئے دیکھا یتوں کی طرح حق پیتے ہوئے پائیں گے۔

میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ اقبال کی گفتگو ہر موصوع ہوتی تھی۔ سائنس، فلسفہ، تاریخ، مذہب، ادبیات وغیرہ کا کوئی مسئلہ بھی ایسا ہو گا جس کا ذکر ان کی مجلسیں میں نہ آتا ہو۔ نظر پر اضافیت۔ یورپ کی تہذیب اور اس کے معاشری مسائل۔ ایشیائی ملکوں کی موجودہ حالت۔ اسلام کا مستقبل سب زیر بحث آتے تھے۔ اور پھر اسی پر موقوف نہ تھا۔ مجھے ان کی ایک محفل یاد ہے جس میں گھنٹوں تک محض پلاو اور اس کے مختلف اقسام پر جو آجھل مختلف ملکوں میں راجح ہیں گفتگو ہوتی رہی۔ ایک

اور مجلس میں پہلو انوں کے داد پیچ کاہی ذکر رہا۔ سیاست سے انھیں بھی
محتی مگر لپید فرم کے لوگوں سے عام طور پر بیزار تھے۔ خود میں سال تک
یونیورسٹی کو نسل پنجاب کے ممبرہ چکے تھے مگر اس کے متعلق ایک دفعہ مجھ سے
کہنے لگے کہ میرے کو نسل جانے کی بڑی وجہ یہ ہوئی کہ میری طبیعت کا رخ غلی
مشاغل کی طرف اس قدر ہو گیا تھا کہ توازن قائم رکھنے کے لئے میں نے
وہیا کے عملی معاملات میں بھی دل پہنچا ضروری سمجھا۔ اس سلسلہ میں یہ بھی
کہا کہ جب میں کمپرس جیں تھا تو فلسفہ کے ساتھ ساتھ معاشیات کا مطالعہ
بھی اسی غرض سے کیا کرتا تھا کہ طبیعت کا توازن قائم رہے۔ اقبال کے
پاس جس وقت صرف وہ لوگ بیٹھتے ہوتے تھے جن کو وہ اپنی طرح سے جانتے
تھے تو گفتگو بالکل بے تکلف ہوئی تھی۔ اپنی جوانی کے زمانے کی داستانیں
یورپ کے قیام کے قصے اور ادھر ادھر کے چنگلے سب بیان ہوتے تھے ابی
مجلس میں نے بعض اوقات رات کے بارہ بجے تک جاری رہتی بھی دیکھی ہیں
ان ہوقتوں پر کبھی کبھی اپنے غیر مطبوعہ اشعار بھی سنادیتے تھے۔ مگر ایسا
شاذ و نادر ہوتا تھا۔ ایک وقت میں ہم لوگوں نے ان سے درخواست
کر کے یہ انتظام کیا کہ وہ شام کے وقت اپنا کلام خود میں پڑھایا کریں
یہ سلسلہ کچھ دیر تک قائم رہا مگر آگے نہ چلا۔

اقبال کی خوش طبیعی ایک خاص چیز تھی۔ موضوع کتابی متنیں کیوں
نہ ہوں سے وہ اکثر مذاق کی چاشنی دے دیا کرتے تھے۔ انتقال سے پہلے
دو تین سال بیمار رہے۔ میں ایک مرتبہ مزادج پر بھی کو حاضر ہوا تو کہنے لگے

کہ یہ مجھے سزا ملی ہے اس بات کی کہ میں عالم بالا کے بہت سے راز جو بتانے کے نہیں ہوتے آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں بیماری کی حالت میں میں نے انہیں مطمئن پایا۔ عام طور پر مریضوں کی طبیعت میں جو چڑھا اپن پیدا ہو جاتا ہے وہ ان میں نہیں تھا۔

ان کی خوش طبیعی کے سلسلہ میں مجھے ایک لطیفہ یاد آگیا۔ ایک شخص جس نے کچھ حصہ ہوا پنجاب کے کسی گاؤں میں بیوت کا دعوی کر لکھا تھا اقبال کے پاس آیا اور انہیں پنی طرف رجوع کرنے کے لئے کہا کہ کل رات میں رسول کریم کے دربار میں حاضر تھا۔ وہاں آپ کا ذکر آیا اور حضور نے آپ کے حق میں بڑے اچھے کلمے کہے۔ چنانچہ میں آپ کو اس کی بشارت دینے آیا ہوں اقبال نے سر محبت کا لیا۔ اور کچھ سوچ کر بولے کہ صاحب آپ کا شکریہ۔ لیکن مجھے اس معاملہ میں کچھ تعجب سا ہے۔ بیوت کے مدعا صاحب نے پوچھا کیا بات ہے۔ اقبال بولے کہ صاحب حیران میں اس لئے ہوں کہ کل رات رسول کریم کے دربار میں میں خود بھی موجود تھا۔ مگر میں نے وہاں آپ کو نہیں دیکھا۔

ایک مرتبہ ایک صاحب جو اقبال کی خدمت میں اکٹھا ضریب اکرتے تھے کچھ دنوں کے وقفہ کے بعد ملتے آئے۔ انہوں نے دیر سے آنے کا سبب پوچھا۔ ان صاحب نے افسوس کے لمحے میں فرمایا کہ ڈاکٹر صاحب کیا کریں عجیب صیبہ ہے دنیا کے دھنے سے ایسے ہیں کہ فرصت اگر بھی جاتی ہے تو وقت نہیں ملتا۔ اقبال یعنی کو بہت ہنسنے اور ان صاحب سے کہا کہ

آج تم نے وہ بات کہی جو آئین سٹاٹس کے باہم کے ذہن میں بھی
نہ آئی ہو۔

اقبال کی خذائیں نے عام طور پر سادہ دلکشی۔ مگر وہ مختلف کھانوں
کی خوبیاں خوب پہچانتے تھے اور ان کا ذکر ذوق و شوق سے کیا کرتے تھے
لباس ان کا ہمیشہ سادہ ہوتا تھا۔ مگر جو لباس بھی پہنتے تھے خواہ بیان اور
چادر ہی کیوں نہ ہواں میں باوقار نظر آتے تھے۔ اپنے بچوں سے انھیں
بہت پیار تھا جس زمانہ میں مجھے ان سے ملنے کا موقع ہوتا رہا میں نے ان
کی خانگی زندگی کو خوشی سے پر دلکھا۔ اپنے نوکریوں کے ساتھ ان کا برتاؤ
نہایت اچھا تھا۔ ان کا نوکر علی بخش ان کے پاس سالہا سال رہا۔ ان
کی طبیعت میں فیاضی بھی تھی۔ میں نے دلکھا کہ باہر کے ملکوں کے مسلمان
بھی جن کی مالی حالت خراب ہوتی تھی جب ان کے پاس آتے تھے تو وہ دو
کے ساتھ ان کی امداد کرتے تھے۔ ایک عرصہ تک تو لوگوں کا یہ خیال تھا کہ
اقبال کے پاس پیسہ نہیں یہ غلط تھا۔ ان کی آمدی معقول تھی اور چونکہ
وہ پیسے کو بجا طور پر ضائع نہیں کرتے تھے اس لئے ان کو کسی نے تنگ دست نہیں دلکھا
انپر انتقال سے دو تین سال پہلے انہوں نے اپنے خرچ سے ایک عالی شان
کو تھی میورڈ پر بنوائی تھی اور اس میں رہنے لگے تھے۔

انھیں مطالعہ کا بہت شوق تھا۔ ان کی زندگی طالب علم کی سیزندگی
تھی۔ ایک دفعہ کسی نے ان سے کہا کہ ڈاکٹر صاحب اس قدر مطالعہ کرنے کی
کیا حوصلہ ہے۔ جواب دیا کہ یہ تو مجھے دوسری دنیا میں بھی کام دے گا۔ ان

کے متعلق یہ کہا جاتا ہے کہ ان کی زندگی کا عملی پہلو مکروہ تھا۔ یہ ایک بڑی حد تک صحیح ہے۔ اگرچہ وہ کوں کے نمبر سے مسلم لیگ اور مسلم کافرنز کے صدر بھی بنے۔ رادنڈیل کافرنز میں بھی گئے، کابل کا سفر بھی کیا۔ انہم حمایت الاسلام لاہور کے پریزیدنٹ بھی ہوئے۔ مگر اس میں کچھ شک نہیں کہ اگران کی طبیعت کا رخ دائمی کاموں کی طرف ہوتا تو یہ چند کام ان کے لئے کافی نہ ہوتے۔ عام لوگوں کو نہ صرف ان پر اعتماد تھا۔ بلکہ ان کے ساتھ محبت تھی۔ جب کبھی وہ انہم حمایت الاسلام کے جلسہ میں آتے تھے تو خواہ ان کی تقریر انگریزی ہی میں ہوتی۔ پنڈال میں ایک هجوم ہو جاتا تھا اور جو سمجھتا وہ بھی سنتا تھا اور جو نہیں سمجھتا تھا وہ بھی سنتا تھا۔

ابوالمسلمانوں کی فرقہ بندی کو پسند نہیں کرتے تھے۔ اور نہ ہی باہر کے ملکوں کے مسلمانوں اور ہندوستان کے مسلمانوں میں کوئی فرق سمجھتے تھے۔ اسی پر موقوف نہ تھا بلکہ ان کی طبیعت پر ایسی کیفیت بھی اکثر طاری ہوا کرتی تھی کہ وہ سارے انسانوں کو محض انسان کی حیثیت سے دیکھتے تھے اور ملک اور مذہب و ملت کی تفہیقتوں کو بالکل بخلافیتے تھے۔

ابوال کی شخصیت اس قدر جامع کمالات تھی کہ اس کے ہر پہلو کا ذکر کرنا ایک بہت بڑی کتاب لکھنے کی کوشش کرنا ہے۔ وہ ایک ہیرے کی مانند تھے جس کے کئی پہلو ہوں اور ہر پہلو میں ایک نئی چک ہو۔ میں نے ان کا ذکر سخت سرسری طور پر کیا ہے۔ اس سے نیادہ اس موقع پر ممکن نہیں۔ آخر میں میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جن لوگوں کو ان سے ملنے کا موقع ملا دہ اگر اپنی

خوش صستی پر نازکریں تو بجا ہے۔ ان کا کلام دنیا کے سامنے ہے اور اس میں
بے انتہا کشش ہے۔ مگر ان کی ذات میں ان کے کلام سے زیادہ کشش ہوتی۔
افسوں کی موت نے یہ گوہر بے بہا ہم سے بے وقت چھپیں لیا۔

ممتاز حسین

ہر راس مسعود

مجھے اپنی زندگی میں جتنے بڑے اور مشہور آدمیوں سے ملئے کا اتفاق ہوا ہے ان میں دونے مجھے سب سے زیادہ متاثر کیا ہے۔ اور وہ دونوں گزشتہ دو سال میں خدا کو پیارے ہو چکے ہیں۔ ایک تو طاکٹرا قبائل اور دوسرے سریدہ راس مسعود۔ طاکٹرا قبائل سے مل کر انسان کو یہ محسوس ہوتا تھا کہ ان کا دماغ حکمت اور فراست کا ایک گہرا خزانہ ہے جس کی تک پہنچا دشوار ہے۔ پاروٹی کا ایک بینار ہے جو انسانی تقدیر کے تاریخیک ترین گوشوں کو مسح کر دیتا ہے۔ سریدہ راس مسعود سے مل کر نہ صرف انسان ان کی دماغی قابلیت کا معرفت ہو جاتا تھا بلکہ ان کی پوری ہمہ گیرا اور دل کش شخصیت سے محور ہو جاتا تھا۔ ان کی ایک ہی ملاقات کا لفظ اس قدر گہرا ہوتا تھا کہ اس کو بھلانا ممکن نہ تھا۔

میری سمجھ میں نہیں آتا کہ اس چند منٹ کی تقریب میں کس طرح اس سرایا باع و پہار شخصیت کی تصویر کشی کروں؟ ایک بڑی سکل یہ بھی ہے کہ جن لوگوں کو ان کی ملاقات اور دوستی کی نعمت میر نہیں ہوئی۔ انھیں میری تصویر میں مبالغہ کی جھلک نظر آئے گی۔ لیکن ان کے ہزاروں دوستوں اور عقیدتمندوں کو یہی تصویر بے کیف ورنگ معلوم ہو گی۔ کیونکہ وہ اس کا مقابلہ اس جنتی جاگتی دل فریب شخصیت کے تصور سے کریں گے جو ان کے دل و دماغ میں

بھی ہوئی ہے۔ خود مجھے بھی یہی دقت محسوس ہوتی ہے۔ کیونکہ میری لگاہ تھیں
کے سامنے تو صور فطرت کا ایک رنگین شاہکار ہے۔ اور جو مجھے میں بیان
کر رہا ہوں وہ مخصوص قلمبر مسند کا ایک وصہن لاساخاکہ معلوم ہوتا ہے۔ میں جس
سلسلہ میں تقریر کر رہا ہوں اس کا مقصد یہ ہے کہ ہندوستان کے بعض
مشائیر کے بارے میں ان جانشی والوں کو اپنے شخصی تاثرات کے انہمار
کا موقع دیا جائے۔ اس میں ان کی مختصر زندگی کے قابل کارنا مے نہیں
گناہ گا۔ میں ذکر نہیں کروں گا اسکے آسفورڈ (OXFORD) کے اس ہر دلعزیز طالب علم
کا جس نے اپنی غیر معمولی شخصیت کا سکھ عزیزوں پر جایا اور غیروں نے بھی اپنا
بنالیا۔ نہ بہار کے خوش تقریر پروفیسر کا۔ نہ ریاست حیدر آباد کے ناظم تعلیمات
کا جس نے محکمہ تعلیم میں نئی زندگی ڈالی اور عثمانیہ یونیورسٹی کے خواب کو
حقیقت کا جامہ پہنایا۔ نہ علی گڈھ یونیورسٹی کے دائی چاند کا جس نے ایک
نائزک دور میں اس کی ناخدا نی کر کے اسے ساحل عافیت تک پہنچا دیا۔ نہ ریاست
بھیوپال کے دزیر معارف کا جس نے وہاں کے تعلیمی جمیود میں حرکت پیدا کر دی
کیونکہ یہاں کے سورخ اور سوانح نگار کا کام ہے۔ میں تو اپنے صرف اس عزیزادہ
محترم دوست کا ذکر کرنا چاہتا ہوں جن کو میں نے سب سے پہلے اپنی طالب علمی
کے زمانے میں دیکھا اور پھر کئی سال تک ان کے ساتھ علی گڈھ میں کام کرنے
کی سعادت تھی۔ جن کو غیر عربی انسانی صفات کی بدلت ڈاکٹرا بیال۔
مہاتما گاندھی اور لارڈ اردون سے لے کر علی گڈھ کے ہر طالب علم اور رچھوئے سے
ملازم تک کے دل میں وقعت اور محبت تھی۔

مجھے کو پہلی مرتبہ ان کا نیاز ۱۹۷۲ء میں حاصل ہوا جب میں علی گلڈھر یونیورسٹی کی طرف سے طلبہ کے ایک دن کا ممبر بن کر حیدر آباد گیا تھا۔ میرے اور ان کے خاندان میں تین اپنیت سے مراسم چلتے تھے ماس لئے ان کی خدمت میں ٹھہر ہونا میرا فرض تھا۔ چنانچہ میں اپنے ایک دوست خواجہ سر در حسن کے ساتھ جو اس زمانے میں حیدر آباد میں رہتے تھے اور اب دہلی کے لاکائی میں پر فنیر ہیں ان کے پہاں بیٹھا۔ ہمیں ان کے کتب خانہ میں بٹھایا گیا۔ جہاں ہزاروں کتابیں جن میں سے اکثر کی نہایت خوش نما اور دیدہ ذریب جلدیں انہوں نے خاص اہتمام سے بندھوانی تھیں نہایت سلیقہ سے المارپوں میں لگی ہوئی تھیں۔ ان کے جن مذاق کی یہ پہلی جملک تھی جو میں نے دیکھی۔ لیکن بعد کی ملاقات سے اندازہ ہوا کہ ان کی گوناگون زندگی کے ہر پہلو میں ادب۔ میں۔ آرٹ اور موسیقی میں۔ عمارتوں کی تعمیر اور مکان کی آرائش میں باغ کی چین بندی میں ہر جگہ یہی حسن مذاق کا رفرما تھا۔ چند ہی منٹ بعد ایک وجہیہ اور شانہ اس شخص کرہ میں داخل ہوا۔ اوپر اقد سڈول جبم گور ارنگ انگریزوں کی طرح سرخ دسپید نہیں بلکہ ہر پانویں کی ایک زیتونی جملک لئے ہوئے پیشی کیا تھا جس سے طبیعت کی رفت اور فراخی ظاہر ہوتی تھی۔ آنکھیں بڑی بڑی اور روشن جن سے بہ میک وقت سجنیدگی اور ٹرافت پکتی تھی۔ بشرے سے عزم اور استقلال اور فراست و ذہانت آشنا کا اور چھرہ ذکاوت احساس اور لطافت جذبات کا آئینہ..... یہ سید راس صعود تھے۔ میں ان سے ملنے تو آیا تھا۔ لیکن دل میں ایک جھجک تھی میں

ایک گلناام طالب علم اور وہ ریاست حیدر آباد کے ناظم تعلیمات اور ایک
مسلمہ شہرت کے مالک۔ شاید ملاقات بالکل رسمی ہو کر رہ جائے۔ شاید وہ
بعض یورپ زدہ ہندوستانیوں کی طرح پوچھ جیسیں میں آپ کے لئے کیا
کر سکتا ہوں؟ شاید وہ ان لوگوں میں سے ہوں جو اپنی گفتگو کے افلات کو
چھپانے کی خاطر موسیم کے بارے میں بات چیت کرنے لگتے ہیں۔ شاید بہت
سے دوسرے بُرے آدمیوں کی طرح وہ اپنی عظمت اور اہمیت کا سکھ
مجھ پر سچانا چاہیں۔ شاید وہ..... لیکن میں اس وقت تک اپنے
راس مسعود سے واقف نہ تھا۔ جس کے ناوک اخلاق و گفتار نے اپنی دنیا
میں کوئی صید نہ چھوڑا تھا۔ چند ہی منٹ میں ان کے خلوص و محبت کے
برتاوا اور گفتگو کے انداز نے میری جھجک اور احساسِ کتری کو دور کر دیا
اور مجھے یہ معلوم ہونے لگا کہ میں ایک پرانے اور شفیق دوست کی باتیں
کر رہا ہوں۔ میر لفظ سنتے رہی کہنے لگے۔ ارے میاں مجھے بخوارے متعلق
سب کچھ معلوم ہے۔ بخوارے والدے اور بخوارے خاندان سے خوب ناقف
ہوں۔ تم تو نہیں جانتے لیکن جس شخص کی رگوں میں حالی کا خون ہو وہ میرے
لئے عزیزوں سے بڑھ کر ہے۔ کیونکہ میں نے بچپن میں اپنے والد کو یہ کہتے نا
ہے کہ اگر انسان کی پرسش گناہ نہ ہوتی تو میں حالی کو پوچھتا اور پھر مولانا حالی
اور ان کے فرزند خواجہ سجاد حسین صاحب اور میرے والد مرحوم کا ذکر اور ان
کے قصہ سنانے شروع کر دیئے۔ اور اسی سلسلہ میں حالی کی شاعری۔ انہیں
کی شاعری اردو اور انگریزی ادب بعلی گڑھ یونیورسٹی۔ جدید مطبوعات

اور نہ معلوم کن کن چیزوں کا ذکر آتا گیا۔ گفتگو کی تھی ایک موئیوں بھرا سمندہ موجیں مار رہا تھا۔ یا ایک روشن شمع تھی کہ جس طرف مترجمتی اس طرف روشنی جھلکانے لگتی۔ اور میری یہ کیفیت کہ بع دہ کہیں اور سنا کرے کوئی

واقعہ یہ ہے کہ ان کا ساخوش بیان میں نے ہندوستان کیا کسی ملک میں بھی نہیں دیکھا۔ ان کی ذات ہر مغل میں رونق مغل ہوتی تھی جس صحت میں پہنچ جاتے تھے یہاں کی طرح دلوں کو شکستہ کر دیتے۔ ان کے سامنے کسی دوسرے شخص کی ہوا تہ بندھتی تھتی۔ ان کے پاس قصہ کہائیوں، حکایتوں اور لطیفوں کا ایک ختم نہ ہونے والا ذخیرہ تھا۔ جن کو وہ نہیں سلیقہ کے ساتھ بر محل استعمال کرتے تھے اور تختیل کی جولانی کا یہ عالم تھا کہ اگر کوئی شخص مبارزہ اداہ ادازہ میں کوئی عجیب و غریب قصہ سناتا تو وہ فوراً ہی فی البدیل یہ ایک عجیب تر و اتنا تصنیف کر کے سنا دیتے۔ ایک دفعہ ایک شامست کے مارے امریکین نے اپنے مخصوص خود پسندی کے انداز میں اپنے ملک کی عظمت و شان کی داشتائیں مجھارتے ہوئے کہا کہ دنیا بھر میں سب سے بھی سرنگ امریکیہ میں ہے جو ۲۵ میل سے زیادہ لمبی ہے۔ مسعود صاحب کو شرارت سو جھی کہنے لگے۔ بن اس سے تو کہیں زیادہ لمبی سرنگ ہمارے ہندوستان میں ہے۔ جو مغل باشا ہوں نے دہلی سے اگرہ تک بنائی تھی۔ تاکہ جنگ کے موقع پر وہ پوشیدہ طور پر سفر کر سکیں یہ سرنگ کوئی سوسو میل لمبی ہے۔ اس نے امریکیہ کی عمت برقرار رکھنے کو ایک آخری کوشش کی۔ کہنے لگا کہ ہمارے یہاں تو سرنگ میں بھی کی روشنی ہوتی

ہے۔ ان لوگوں نے رد شنی کا کیا انتظام کیا ہوگا۔ راس مسعود کے دماغ میں بھلی کی صرعت کے ساتھ اس کا برجستہ جواب کو مدد گیا۔ پولے اسی میں تو انہوں نے اپنا کمال دکھایا تھا۔ اس زمانہ میں بھلی تو نہ ہوئی تھی اس لئے جب سرنگ تیار ہو گئی تو انہوں نے ساری میفل فوج کو برسات کے موسم میں جنگل میں بھیج دیا تاکہ وہاں سے کروڑوں گلبنو پکڑ کر سرنگ میں جھپور دیں۔ چنانچہ ان گلبنوؤں کی چمک نے اس سرنگ کو بقعہ نور بنادیا۔ اور اب تک ان کی اولاد اس سرنگ میں بستی ہے اور وہاں کے اندر ٹھیرے میں اجالا کرنی رہتی ہے۔ بے چارہ سادہ لوح امریکن اپنا سامنہ لے کر رہ گیا۔ اور اس کو یہ شبہ بھی نہیں گزرا کہ وہ اس قدر سخیہ چہرہ بنائے اس پر اپنی طرافت کی مشق ستم کر رہے ہیں۔ ان کی ستم طریقی کی بہت سی دلچسپ شاید میں نے دیکھی ہیں جن کو منانے کا موقع نہیں ہے۔ صرف ایک قصہ سن لیجئے۔ ایک دفعہ اردو کے ایک مشہور ادیب جواب مرحوم ہو چکے ہیں ان کے پاس ٹھیرے ہوئے تھے۔ ان کو نہ صرف بو اسیر کی شکایت تھی بلکہ وہ ہر کس دن اس سے موقع اور بے موقع اس موصنوع پر اس قدر تفصیل کے ساتھ گفتگو کرتے کہ لا چارہ ہو کر مخاطب کا ذہن یا تو خود کشی کی طرف مائل ہوتا پا قتل کی طرف مسعود صاحب ان کی اس گفتگو کا لفکر کی دفعہ اٹھا چکے تھے۔ اس زمانے میں ان کے پہاں ایک فرانسیسی پروفیسر بھی ٹھیرے تھے۔ جن کو بے حد بولنے کی عادت تھی اور کسی کے سامنے چپ نہ ہوتے تھے۔ مسعود صاحب نے اپنے ادیب دوست سے تو علیحدگی میں یہ کہہ دیا کہ پہ بے چارہ فرانسیسی مدت سے بو اسیر میں مبتلا

ہے اور اس بارے میں آپ کے تجربات اور مجرّبات سے فائدہ اٹھانا چاہتا ہے۔ اور فرانسیسی سے یہ کہا کہ ان صاحب کو آپ سے ایک نہایت ضروری موصوع پر گفتگو کرنی ہے ان کو آپ اپنے ساتھ ہوا خود کو لے جائیے۔ اس نے خلوص نیت سے انھیں سیر کو چلنے کی دعوت دی۔ اس کے بعد آئندہ دو گھنٹے میں بیچارے فرانسیسی پر جس نے پہلے کبھی بو ایسکا نام کبھی نہ سنا تھا جو گزری اس کا اندازہ آپ خود کر سکتے ہیں۔ لیکن مورخ بیان کرتا ہے کہ اس کے بعد ہمیشہ ادیب کو دیکھتے ہی پروفیسر کو پہنچ آ جاتا تھا۔

ان سے میری دوسری ملاقات ۲۹ نومبر ۱۹۳۸ء میں ہوئی۔ جب وہ یونیورسٹی کے والنس چانسلر ہو کر علی گڑھ تشریف لائے۔ اس تادول اور یونیورسٹی کے طلبہ کا ایک جم غیران کے خیر مقدم کے لئے اسٹین گیا تھا۔ میں ایک طرف کھڑا ہوا تھا اور خیال یہ تھا کہ سات سال پہلے کی ایک ملاقات کے بعد وہ کیا پہچانیں گے۔ اس لئے اس وقت نہیں ملوں گا۔ لیکن انہوں نے دیکھتے ہی پہچان لیا۔ اور خود پڑھ کر تپاک اور محبت سے ملے۔ واقعہ یہ ہے کہ ان کا حافظہ بلا کا تھا۔ جو چہرہ ایک دفعہ دیکھ لیتے یا جو نام ایک دفعہ سن لیتے وہ ہمیشہ کے لئے ان کی یاد میں محفوظ ہو جاتا۔ جن لوگوں کو ۲۵-۳۰ سال کے بعد دیکھتے ان کو نہ صرف پہچان لیتے تھے بلکہ پچھلی ملاقات کا وقت اور موقع اور ان کے پاس تک کو تفضیل کے ساتھ بیان کر دیتے تھے۔ میں نے کہ میں پائی چکھہ مر تھے ان کے حافظہ کا یہ کمال خود دیکھا ہے۔ اس قدر لیتی عطا یہ کا ایک نتیجہ یہ تھا کہ وہ یونیورسٹی کے بیشتر طلبہ کے نام اور چہروں کو پہچانتے تھے

اور ہر طالب علم سے اس خلوص سے ملتے کہ ان سے ان کی ذاتی دل حسپی اور خصوصیت کا انٹہار ہوتا۔ اسی وجہ سے طلباء بھی پروانوں کی طرح ان کے گرد رہتے اور ان کو ہمارا محبوب و ائمہ چانسلر کہا کرتے۔ علی گدھ میں کوئی وائس چانسلر طلباء میں اس قدر ہر دل عزیز نہیں ہوا۔ اس گھرے تعلق کی وجہ بخشن ان کی خوش کلامی نہ تھی۔ بلکہ ان کا وسیع اخلاق تھادہ اپنے میل جوں میں شرافت اور وضن داری کا ایک اعلیٰ نمونہ تھے ان کے دربار میں چھوٹے بڑے امیر غریب سب کے ساتھ ایک سا برتاؤ ہوتا تھا۔ وہ اپنے پرانے نوکروں سے بھی اسی خلوص اور بے تکلفی سے ملتے تھے جس طرح اپنے عزیز اور عزیز دوستوں سے بلکہ ان کے یہاں بقول حکیم خاکساروں سے خاکساری تھی اور سر بلندوں سے ایک سارہ تھا۔ ان کو ہر قسم کی تنگ دلی تعصب اور ہجھاہ ۲۵ (چھپھورے پن) سے نفرت تھی۔ ہندو مسلمان۔ عیسائی ہندو ایگریز۔ فرانسیسی ہرنس اور مذہب اور حیثیت کے لوگ ان کے عزیز دوستوں میں شامل تھے اور ان کا دل اتنا بڑا تھا کہ ان میں اپنے دوستوں عزیزوں نوکروں۔ ملا قایتوں۔ بلکہ مخالفوں کے دکھ درد کے لئے بھی جگہ تھی۔ علی گدھ میں کئی سال تک میرا ان کا ساتھ رہا اور میں نے انہیں جلوت و خلوت دونوں میں دیکھا اور ہمیشہ یہ پایا کہ اس شریف اور دل والے انسان نے کبھی روپیہ پیسیہ۔ وقت مفارش۔ سہمندروی کے معاملے میں بخل سے کام نہیں لیا۔ دراصل ان کا دل ضرورت سے زیادہ نازک اور حساس واقع ہوا تھا۔ اسی وجہ سے مخالفوں کی مخالفت کا گھاؤ ان کے دل پر گہرا لگتا

نئھا۔ ان کی طبیعت جمہوری اداروں میں کام کرنے کے لئے بہت موزوں نہ تھیں جب انہوں نے بعض حالات سے مجبوہ ہو کر علی گڑھ چھوڑا تو ہندوستان بھر کے مٹاہیر میں شایدہی کوئی ایسا شخص ہو جس نے ان کو اس خیال سے باز رکھنے کی کوشش نہ کی ہو۔ لیکن وہ پاہنہ آئے۔ میں نے بھی ایک روزہت سر کے پوچھا کہ آخر آپ پنی عادت کے خلاف اس معاملہ میں اس قدر صند اور اصرار کیوں کرتے ہیں تو انہوں نے بہت حضرت کے لمحے میں جواب دیا اور مجھے ان کے الفاظ اب تک یاد ہیں: ”بیدین تم نہیں جانتے میرا دل شیشے کی طرح سے ہے۔ جب ٹوٹ گیا تو ٹوٹ گیا۔ اب اس کو کاغذ اور گونڈ لگا کر نہیں چکا سکتے“

علی گڑھ چھوڑنے کے بعد بھی وہ جب کبھی علی گڑھ آئے ان سے ملاقات ہوئی جس سے ایسا لطف ملتا چیسا ایک تھکا ہوا اسافر چند گھنٹے کے لئے کسی نخلستان میں پہنچ جائے۔ دو مرتبہ بھوپال میں ان کے ساتھ ٹھیٹر نے اور زیادہ مفصل ملاقات کرنے کا شرف نصیب ہوا۔ میں عمر بھراں مہماں نوازی کے لطف اور خلوص اور محبت کے خلوص کو نہیں بھجول سکتا۔ ان کی خوبصورت کوٹھی ریاضن منزل اور وہاں سے پہاڑیوں اور جھیل کا دل کش اور پر فضا نظارہ جس نے اقبال کے تغزل کو از سر ہنڈا کر دیا تھا۔

انڈھیری رات میں یہ شکپیں ستاروں کی پہنائی سفر عرویں قمر کا عماری شب میں طلوعِ مہر و سکوت پہر میانی اور وہاں سرداں مسعود اور لیڈی مسعود کی میزبانی اب ایک خواب معلوم

ہوتا ہے۔ وہ زمانہ ان کی مجلسی اور خانگی زندگی کا بہترین زمانہ تھا۔ ذاتی افکار سے نجات پا کر ان کا دماغ بھوپال اور اہل بھوپال کی بہتری کی مختلف تباہیوں پر چنے میں مصروف رہتا تھا۔ ایک روز صحیح کوئی کتاب یعنی کے لئے میں نے ان کے کتب خانہ کا دروازہ لکھوا۔ تو دیکھا کہ آٹھ دس بڑی بڑی پکڑپوں والے پنڈت ان کے گرد بیٹھے ہوئے ہیں۔ پوچھا سید صاحب کیا ہو رہا ہے۔ معلوم ہوا کہ ان کے زیر ہدایت سنسکرت کی بعض مستند کتابوں کا ارداد میں ترجمہ ہو رہا ہے۔ آٹھویں دن یہ سب وہ دان اپنے اپنے ترجیے کر کے لاتے ہیں اور وہ ان کو پڑھوا کر سنتے ہیں اور ترجموں کا مقابلہ کرتے ہیں۔ واقعہ یہ ہے کہ ان کی ادبی و لچپیاں بہت ہی وسیع تھیں۔ حالیہ۔ میر انس اور اقبال کا بیشتر حصہ انھیں حفظ تھا۔ انگریزی۔ فرانسیسی کے بہت سے شعر اکلام زبان پر رہتا تھا۔ انیں کے بعض مرثیوں کا ترجمہ انھوں نے انگریزی نظم میں کیا تھا۔ جس نے اہل زبان سے خارج تھیں وصول کیا تھا۔ تحریر و تقریر دونوں میں ایک خاص شگفتگی اور جدت ادا کتی۔ موسیقی میں بہت عمدہ مذاق رکھتے تھے۔ مصوری سے بہت اچھی واقعیت تھی اور بھوپال میں جہاں مقابلہ انھیں فراغت اور اطمینان نصیب تھا۔ وہ اپنے فرائض منصبی کے ساتھ ساتھ اپنے ذاتی شوقوں اور دلچسپیوں کی طرف بھی توجہ کر سکتے تھے ان آخری بے تکلفی کی ملاقاتوں میں ان سے گھنٹوں باہم ہوئیں۔ ان کے دل میں کیا کیا منصوبے تھے کتنے بڑے بڑے علمی۔ ادبی اور تعلیمی کام کرنے کی امداد تھی۔ خیالات میں کس قدر بلندی اور وسعت تھی۔ دل میں ملک

اور قوم کا کس قدر در دل تھا۔ لوگوں سے کام لیجئے کی کس درجہ صلاحیت بھتی
ان سے گفتگو ہی کر کے دل شیر ہو جاتا تھا کہ جس قوم میں ایسے انسان موجود
ہوں اس کے مستقبل کی طرف سے مایوس ہونے کی ضرورت نہیں۔ اور اس
آخری ملاقات کے تھوڑے عرصہ کے بعد ایک منحوس شام کو شملہ میں یہ سنا
کہ وہ شمع جس نے ہزاروں کی تاریک زندگی میں روشنی پہنچائی تھی یکایک
 محل ہو گئی۔ یہ واقعہ ایسا اچانک اور خلاف توقع تھا جیسے کوئی کہے کہ کوہ
ہمالیہ اپنی جگہ سے ہٹ گیا۔

سر راس حسعود نہیں رہے یہیں ان کے کارنامے زندہ رہیں گے۔
اور ان کی دل کش اور شاندار اور شریف سخیت کی یاد ان کے بے شمار
دوستوں اور قدردانوں کے دل میں ایک عزیز ترین سرمایہ کی طرح محفوظ
رہے گی۔

خواجہ غلام السیدین

مولانا محمد علی

نومبر کا مہینہ اور شروع کی تاریخیں ۲۷ نومبر ۱۹۴۶ء۔ ایک خوشگوار شام کو لکھنؤ میں کانپور سے چھوٹنے کے قریب ہے کہ دو شخص مذکور کے سالانہ احلاں کو بھاگم بھاگ نوٹ پر استیش پہنچتے ہیں۔ اور جب تکٹ لے لو اس بکچہ فلیوں اور کچھ دانیوں کی مدد سے چھینک پھانک ایک درجہ میں عادل ہوتے ہیں۔ دو انگریز بھائی کے پہلے ہی سے بیٹھے چلے آتے ہیں۔ دونوں نوواروں کھدر پوش عباپوش۔ ایک وجہیہ خوش قطع دوسرا کریہ بد قوارہ۔ دونوں دارضی پاڑ۔ ان نوواروں کو انگریز دیکھ کچھ منے کچھ مسکراتے عجائب نہیں جو یہ سمجھے ہوں کہ بلکہ گھس آئے ہیں۔ خوش قطع نووار داسی برخہ پر بیٹھ گیا جس پر صاحب بہادر جنمے ہوئے تھے۔ دوسرے نے مقابل کی شست اختیار کی۔ گاڑی چلی۔ گنگا کا پل بات کہتے آگیا۔ صاحب بہادر دونوں کی طرف دیکھ چھیر کی مسکراتے سے ہنسے اور منہ بنائے پولے "This is mother" گانج (یہی گنگا مانی ہے) طرز اور زور لفظ mother پر لٹھا۔ پاس کے کھڈپوش نے معاچا۔ کی پیالی منہ سے ہٹا انگریزی زبان اور انگریز کے لمحہ میں جواب دیا۔ یہ مانی اور موسی اور حالہ کیا معنی؟ اچھا آپ یہ رشتہ لیتے ہیں۔ میں تو جانتا تھا کہ دریا بس دریا ہے۔ صاحب یہ تراویق سے جواب سنائے میں آگئے۔ یہ بر جستہ جواب دینے والاتھا محمد علی۔ اور اس کا ساتھی

یا "تاریخ مہمل" آپ کا یہ خادم صاحب کو یہ گمان نہ تھا۔ یہ چہرہ پر ڈاٹھی اور سر پر سچھے رکھائے ڈھیلے ڈھائے کپڑے پہنے ہوئے ہندوستانی کچھ بھی انگریزی جانتا ہو گا چہ جائے کہ انگریزی میں جواب دے سکے اور دیا بھی شستہ اور بر جستہ! چپ سادھ کر رہ گئے۔ اس کے بعد ادھر سے منہ پھیر گفتگو اپنے پر اనے رفیق سفر سے شروع کی۔ ولایت سے کرکٹ کی مشہور و معروف ٹیم ایکسی زی. نیشنل ہندوستان آئی، ہی تھی۔ موضوع گفتگو پیغمبھری۔ اور اس کے کھیل اور مختلف یونیج، محمد علی تھوڑی دیر تو چب ہنتے رہے اس کے بعد رہا گیا۔ بوئے "وخل در صفوارات صعاف۔ کھلاڑیوں پر آپ جو رائے زانی کر رہے ہیں صحیح نہیں ہے۔ فلاں کھلاڑی میں یہ خوبی ہے اور فلاں میں یہ خرابی اور لگے اس کی تقاضی بیان کرنے۔ اور صاحب تھے کہ بھوچکے ہنے ایک ملانہ انسان کی زبان سے یہ ماہرا نہ معلومات ملنے رہے تھے۔ محمد علی نفس کرکٹ پر آگئے۔ اور لگے انگلستانی کرکٹ کی تاریخ بیان کرنے۔ لندن میں اور اسکے سورہ میں فلاں سنہ میں بولنگ کے یہ طریقہ راجح تھے۔ گینڈی کی پیچ یوں پڑتی تھی۔ بینگنے یوں کی جاتی تھی۔ فلاں زمانہ میں یہ تبدیلیاں ہوئیں۔ ہندوستان اور انگلستان دونوں کی زمینوں میں یہ فرق ہے وغیرہ وغیرہ۔ بوئے والاب گفتگو نہیں کر رہا تھا گویا کرکٹ پر انسانی کا لوپیدھ یا کا آرٹیکل نہ رہا تھا۔ آخر میں صاحب بوئے آپ کو کرکٹ کے متعلق بڑی معلومات ہیں۔ محمد علی نے کہا مجھی کو نہیں بلکہ ہر علی گدھی کو اسی ہی معلومات ہوتی ہیں۔ وہ بولا کیا آپ علی گدھ میں کہاں رہ چکے

ہیں، یہ بولے میں نہیں تھا۔ بڑے بھائی۔ Big Brother تھے شوکت صن
 کے لئے یہ Big Brother کی تلمیح محمد علی ہی نے اپنے کامگری کے خاطر صدارت
 کے وقت سے چلا دی تھی۔ وہ انگریز اس پر بے ساختہ بولتا۔ "you talk like I am
 I am Ali"۔ یہ تو آپ محمد علی کی زبان بول رہے ہیں۔ یہ بولے I am
 Ali۔ زبان کیسی میں خود ہی محمد علی ہوں۔ "صاحب پہاڑ کی حیرت اب دمکھنے
 کے قابل تھی۔ آنکھیں بچاڑ کر بولے Really, one of the two Ali Brothers
 یعنی وہی محمد علی جو علی برادران میں کے ہیں۔ انہوں نے چمک کر جواب دیا
 Yes, the younger and the more sharp tongued of -
 جی ہاں انھیں میں سے چھوٹا اور زیادہ تیز زبان بھائی۔ صاحب
 کو اپنی حیرت کے رفع کرنے میں اب کی دیر سینئڈوں کی نہیں مندوں کی لگی۔
 بے چینی اور بے قراری کے ساتھ بار بار ہپلو بدل رہے تھے۔ اور تنظیم محمد علی
 کے چہرہ پر گزی ہوئی تھی۔ محمد علی نے اب ہنسنا اور لطف لینا شروع کیا۔
 بولے اتنا لکھبرائی نہیں کیا آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ علی برادران جس انگریز کو دیکھ
 پاتے ہیں اس پر جست کر بیٹھتے ہیں۔ دیکھ لیجئے تا میرے ناخن تک ترے ہوئے
 ہیں۔ جملہ کا خیال ہی دل میں نہ لایے۔ ایک مشہور انگریزی روزنامہ اس
 وقت علی برادران کا شدید مخالف تھا۔ صاحب نے اس کا تازہ پرچہ آگے
 بڑھایا۔ محمد علی نے پرچہ کو تو چھوٹا کر نہیں، البتہ اس کے ایڈیٹر پر خوب
 خوب فقرے کئے۔ داستان خاصی طویل ہو گئی۔ اور ایک ہی قصہ کو کہاں
 تک سننے جائیے گا۔

ایک بار محمد علی انگلستان میں تقریر کرنے کھڑے ہوئے۔ وقت
کل پانچ منٹ کا ملا۔ انہوں نے تہیید یوں اٹھائی کہ میں چھ ہزار میل
کے فاصلے سے میں کروڑ آبادی کی نسبت بندگی کرنے آیا ہوں۔ اب آپ
خود حساب لگایے کہ ایک ایک منٹ نہیں ایک سینکنڈ بلکہ ہر سینکنڈ
کی کسر میں مجھے کتنی ترجمانی کا وقت ملتا ہے۔ حاضرین لوٹ گئے اور روانہ
آنے لگیں کہ آپ کہے چاہیے کہ مجھے ہوا کہ مولانا پانچ منٹ کی جگہ
پوچھے میں منٹ تک بولے۔

ایک اوپر منتظر اسی سفر میں اللہن میں کسی جگہ سولانا تقریر میں بیان کی
کرو رہے تھے کہ ہر سی اور دھرنا تو چاہے صدر چھوڑ دی دیں۔ قسطنطینیس میں طرح
چھوڑ سکتے ہیں جس سے ہماری تمام فرمیمیں ملی دعا ایام و دلستہ میں۔ جلسہ
مخالفین سے بھرا ہوا تھا۔ انہیں میں سے ایک تاریخ کے فاضل نے کھٹ
سے سوال کر دیا کہ یہ تو بتائیے قسطنطینیہ کب سے آپ کے قبضہ میں ہے کوئی
صمولی مقدر ہوتا تو مجھرا جاتا۔ مولانا نے اپنے سلسلہ کلام میں درا فرق آنے
دیے بغیر جواب دیا۔ سہ تو یاد نہیں اتنا یاد ہے کہ جب سے آپ کے قبضہ
میں ہندوستان ہے اس سے تگنی مدت سے ہمارے قبضہ میں قسطنطینیہ کی
حلسوں میں تعمیر ہے اور فاصلہ تاریخ مددھم پڑے۔ محمد علی کی قوت حافظہ
پلاکی تھی مادور ذہانت اور برستگی تو کہنا چاہیے ان پر ختم تھی۔ سارے
لطائف وظائف کوئی لکھنے پر آئے تو کتاب کیا معنی وفتر کا دفتر تیار ہو
چکے۔ اور سب لکھر ہی کون سکتا ہے۔ کس کو سب بیادرہ سکتے تھے اور یاد

کا سوال تو مجھ کرہے۔ سال کے ہر دن اور دن کے چوتھوں لکھتے ہزار بنا ساتھ
ایسا کون رہ سکتا تھا۔

منہاجیت نظری کے پادشاہ تھے۔ بیان میں بات پیدا کر دینا صدھ تھا
ذرا۔ میں بیٹھا دست کے ساتھ بستھا ہو میں یہ حال سننا ہمارا جو
الود کو کچھ دھم کا ایک ہزار بار دیکھا دیتے۔ علاج کے لئے پورپ بھجوایا
اں سے قبل الود ملکوئے تھے۔ ہمارا جو انگریزی کے تواریخ پڑتے ہی فاری
کے بھی شاعر تھے اور وحشی خلص کرتے تھے۔ ملاقات کے وقت اپنا دیوان
”شیل کیا اور اس پر اپنے قلم کے یہ عبارت لکھی۔ ”To my Maulana.
” آپ نے مولانا کی خدمت میں ان کے وحشی کاہدیہ
مولانا نے جب جامعہ کا صاحب تعلیم زکا لا۔ اپنا تصنیف کیا اور اس پر
”From a bogus maulana to a real“
”Maharajah“
کی خدمت میں بھی۔ ” خدا دعا اسے یہ تھی کہ شخص کی حالت میں بھی فقرہ
چست کرنے سے نہ چوکتے۔

خلافت میٹی کے جلسوں میں گرامنؤک جھونک کے وقت بارہ بار
متعدد بیچنے میں آتا۔ ایک بار کیا ہوا کہ مرکزی خلافت میٹی کا اجلاس دہلی
میں بھیم اجل خان صاحب کے مکان پر ہوا تھا۔ محمد علی بھارو صعندر
لیے ہوئے تھے۔ مختلف صفت میں ایک اور مشہور لیڈر ایک روز نامہ کے
مالک، ضع اپنے صاحبزادے سے کے۔ اور اسی روز نامہ کے اپنے پیر بھی تشریف

فرماتے۔ بحث نے طول بھینچا اور دیہ ٹینوں صاحب ناخوش، بوجلسے سے اُنہوں کھڑے ہوئے۔ محمد علی بر جستہ پکارا سکتے۔ عصبہ کو گیا۔ پاپ بیٹھے۔ روح القلوب ٹینوں خفا ہو گئے۔ ذہانت کے لئے ڈرامہ دان شرود شاعری کا نہ کام۔ محمد علی خود بھی شاعر تھے اور شاعری کی وینا میں نام کھا جو آخر سب سے پڑے بھائی کا تخلص تھا کوئیر۔ فرماتے تھے کہ بخندے بھائی شوکت بے تخلص ہے جلتے ہیں ان سے کے لئے تخلص کوئی کرنا ہوں۔ اسی ورزی اور قافیہ میں شوکت شیفته کی مشہور غزل پر غزل نادانیوں میں حکم دیکھا یوں میں ہم۔ پر غزل کہنے بیٹھے۔ تو مطلع فرماتے ہیں سے

کیوں شہر چھوڑ جاؤں ہیں ہر قانیوں میں ہم۔ بھنوں کے ساتھ ہونگے پہاپانیوں میں ہم
علی گڑھ کے ایک مشہور خاندان شروانی سے تعلقات ہٹھی بے تکلفی
کے تھے۔ اس کے ایک مہر زد قزوں کی نہان سے کہتے ہیں ہے
یہ ظلم ہے کہ سب کو کو ایک ساچاں۔ پائے ہیں مقل بھی کبھی شرواںوں میں ہم
خود بجا پور جبل میں قید ہے۔ جسم تھیم بُٹھے بھائی راجہ بوٹ جبل میں
پڑے پڑے دپٹے ہو گئے تھے۔ ان کی زبان سے ادا کیا ہے ہے
شوکت یہ کہتے ہیں وہ تن دلوں جس بھی۔ پھر کیوں گئیں اپنے کو وہ ماںوں میں ہم
ابھی گوجوانی سی تھے کہ علی گڑھ کالج میں طالب علموں نے زبردست
اسٹرائل (Strike) کی۔ میں اسی زمانے میں سر سید کی بر سی کا دن آیا۔
اور اسی دن اول ڈپواز۔ دو boys dd نے بھی اپناء سالانہ جلسہ منانے لے
کیا۔ محمد علی آئے ہیں اور ایک مستطوم عربیہ سر سید کی روح کی خدمت

میں اپنے ہی بھی بڑھے لاگوں کو سنا کر بیش کرتے تھے۔ دو میں صفر ملا خڑھے
ہوں سے

جنہل و قوم کی کسی کی گوشی سے باہر ہو
پڑھے سا جل پڑھن تو کیا ہماسے ناخدا تم ہو

مرسید کے عقائد ملحوظ ظاظاطر ہے ہیں

بہار مانا کہ تاثیر دعائیں شک رہا تم کو

وہاں صالح نہ ہو گی پھر بھی مشغول دفاعِ تم ہو
کھیں کو دھونڈی پھر تی ہیں آپ کھیں علی یاد ہیں

اور اس پر یہ تماشا ہر طرف اور جا بجا تھم ہوا

سکھایا تھا تھیں نے قوم کو یہ شور دشمن سارا

جو اس کی انتہا ہم ہیں تو اس کی ابتدا تم ہو

ایک زمانہ تھا کہ ہندوستان کا گھر گھر اس گست سے گونج رہا تھا۔

بولی زماں محمد علی کی جان بیباخت فت پڑے دو

یہ سب جل کے باہر تھا۔ جل کے اندر خود محمد علی کیا کہہ رہے تھے۔

تم بیوں ہی سمجھتا کہ قیامیرے نئے کو

پینعام ملا تھا جو حسین ا بن علیؑ کو

میں کھو کے تری نہ میں سب دلیلت دیتا

سمحنا کہ کچھ اس کی بھی سوامیرے نئے ہی

امید نہیں ہے کہ خدا ہر شہر میں کہہ لے

یہ بندہ دو عالم سے خقاںیرے نئے ہو

یہ شاعری نہ بھی آپ یعنی کا ایک گڑا تھا۔

کیا دُڑھے جو ہوساری خدا نی بھی نہیں۔ کافی ہر اگر ایک حد امیر کے لئے ہے
لڑکا کوئی نہ کھا۔ لڑکیاں چار تھیں۔ ایک سے ہمیں بُرھو تھیں میں اور لاٹی
سڑکوں میں ابھی جیل ہی میں تھے کہ تم جعلی رُڑکی آمنہ بی۔ پالی یوسی۔ جوان
شادی شد و دُوق میں بھیلا ہو ہیں اور صرف رُونڈ بُر زر خٹا گیا۔ بھجوہ
و صفت بر جائے وائے پاپ پر کیا گز ردی ہو گی۔ جو وہ سروں کی اولاد کئے
تھے جانے والا تھا۔ جو داپتی نازوں کی پالی نور نظر کے واسطے کیا کیا
بلپلا یا ہو گا۔ تکملایا ہو گا۔ پھر پھرایا ہو گا۔ کچھ زدر نہ چلا تو عالم خیال
ہی میں بیٹی سے کہنے لگے ہے

میں ہموں بھجوہ پر اللہ تو بھجوہ نہیں۔ گھے کے میں وہ رہی وہ تو بگرد وہ نہیں
اوہ پھر اپنے بھی کو یوں وہ تکن وینے لگے ہے

امتحان سُجُّع سُبھی پر دلِ سومن ہی وہ کیا۔ جو ہر اک حال ہیں صید سے گھوڑے نہیں
ہم کو اللہ قدر الہی سے نہ شکوہ نہ گلا۔ اہل تسلیم و رضا کا تو پیدا و ستو نہیں
پھر اپنے اور اپنی نور نظر دو ٹوں کے پیدا کرنے والے سے کچھ روک دو کر
گز گز اگر گز اگر عرض کرتے ہیں نہ

تو تو مردوں کو جلان کشا ہو قرآن ہیں کیا۔ تحریج الحجی من المیتہ نہ کوئی نہیں
یہی قدر سُجَّع خدا یا یہی سُجَّع خدا ہیں کم۔ آمنہ بھی جو شفایت نہ تو کچھ دو نہیں
خانجت تھے کہ سر نوشت کا تو شتم لکھا نہیں۔ سمجھتے تھے کہ تقدیر الہی کیا

فیصلہ کر چکی ہے۔ کہتے ہیں اور کاچھ بھاگ کر کہتے ہیں سے
یہی صحبت ہیں۔ مطلوب پر میکن اس کو۔ نہیں ہنگوڑ تو پھر یہم کو بھی منتلو نہیں۔

ایک نہیں دو جوان پہاڑی لڑکیوں کا جنازہ اپنے ہاتھوں اٹھایا
 قبر میں سلایا۔ دل ان ذمی صد موسوی کی تاب کہاں لانا۔ تو می صدمے ان
 سے بے بڑھ پڑھ کر جسے اس کے بعد چھ سال میں محدث علی کو قوم دلمہت کے
 پیشوں۔ لکھ کے سردار کی حیثیت سے لاکھوں نے جانا۔ کروڑوں نے پہچانا
 ان سب کے زیادہ خوش نصیب وہ تھے جنہوں نے محمد علی کو قریب کی حیثیت
 دوست کے عزیز کے انسان کے دیکھا۔ کیا بیان کیا جائے کیسی شخص انہیں
 پاتھا آگئی تھی۔ ایک صد اقت بجم۔ ایک پیکرا خلاص برات۔ دیانت بہت
 بے خوبی کا جسم۔ پاس والے جتنا قریب سے دیکھتے گئے۔ حضرت جوہر کے
 چوہر اور زیادہ گھلتے گئے۔ نکھرتے گئے۔ مشہور تمام تر ایک بے باک بیاسی
 لیدر کی حیثیت سے تھے۔ لیکن ان کے لفظ میں ڈپولٹی کا لفظ ہی نہ تھا۔
 ظاہر و باطن بیان۔ جو جمال جس کے متعلق و ملغہ میں آگیا۔ زبان سے ادا ہو کر
 رہا۔ جو بات دل میں آئی منہ پر اسے بغیر نہ رہی۔ کہتے ہیں کہ اہل سیاست وہ
 ہوتے ہیں۔ جو کہتے کچھ ہیں اور کرتے کچھ ہیں۔ محمد علی اس معنی میں اہل سیاست
 نظرانہ تھے۔ ایک بار نہ تھے۔ ہزار بار نہ تھے۔ محبت کے پلے تھے۔ جہر والفت
 کے بندے تھے۔ بیوی بچوں کے عاشق زاد۔ دوستوں۔ رفیقوں۔ ساکھیوں
 پر سو جان سے نثار اور دور کا واسطہ رکھنے والوں کے سونش و نگسار۔ کہا
 کرتے تھے کہ شہرت میں کیا رکھا ہے۔ میں تو محبت کا بھوکا ہوں مسلمانوں
 کے اور عالم اسلامی کے ساتھ شفیقیگی کی یہ کیفیت کہ افریقیہ میں کسی کے مکوئے
 میں کا نٹا چھجھے اور اس کی چیزوں نیہاں ہندوستان میں بھیجئے محمد علی محسوس کریں

شادیے جہاں کا درد ہمارے چکر میں ہے۔ یہ مصروع بارہا سنتے میں آیا تھا اور دل ہمیشہ اسے زمی شاعری سمجھا۔ محمد علی کی زندگی نے سمجھا و پایا کہ شاعری کبھی حقیقت مجسم ہے جاتی ہے۔ لوگوں کو ہمان بنانے۔ کھانا کھلانے۔ خاطریں کرنے کے حوصلے تھے۔

اور زندگی کا ثبوت ہوتا ہے۔ زندگی سے پڑھ کر دیتے رہے۔ لیکن جانتے والے چانتے تھے کہ نہ پینپنا تھا نہ پیچے۔ پہنچتے میں۔ یوں لئے ہیں۔ مگر جانتے ہیں، لیکن اندر ہی اندر جلتے گئے۔ پھکتے گئے پاکھلتے گئے۔ مذہب کے دیوانے تھے۔ پروردگار سے ایسا عشق کم دیکھتے ہیں آیا ہے۔ قرآن پڑھتے تو قرآن ہی کے ہو جاتے۔ جب اس مضمون کی آیتیں آیتیں کہ منافقوں کو دیکھو کو بچائے اللہ کے یہ اللہ کے بندوں کے ذریعے ہیں تو آنکھوں سے آنسو جاگی ہو جاتے اور پار پار ان آیتوں کی تکرار کرتے۔ ان الحکم الالہ تو گویا یہ کلام تھا۔

۱۹۳۷ء کو دریساں میں جو مسلمانوں کے یہاں پندرہ ہوئی شبیان کی بیک رات تھی۔ جب روئے زمین کے مسلمان بڑے ڈوق و شوق سے جان کی اور ایکان کی ویسا کی اور عقبی کی دونوں کی سلاستی کی دعا یہی مانگ رہے تھے۔ مشیت الہی نے ان سے یہ نعمت واپس طلب کر لی۔ شاید اس لئے کہ محمد علی کے اہل وطن۔ اہل ملت اس نعمت کے اہل ثابت نہ ہوئے۔ جان لندن میں جان آفریں کے سپرد کی اور آخری آرامگاہ کے لئے جگہ کہاں ملی؟ سرزد میں مقدس میں قبلہ اول کے قریب۔ جامع عمر سے

میتھل اقوال کو الہام ہواجع
شوئے گردوں رفت زان ٹھے کہ پغیر گزشت
ماں و شیون کی صدائیں ہند و سیان بھرتیں اور سارے عالم اسلامی ہیں
اس زور شور سے اکھیں اور اتنے روزگار میں کہ تاریخ میں مشاہد کشل ہی
کے لئے گی۔
ماں پیڑ مانے میں بپا میرے لئے ہے۔ انھیں کام ضرع ہے اور بھی تو
خودی فرمائتے ہے
بے رنگ ایک نلن کو جوہر کی خوبی۔ یہ جنی دین ہے جسکو درود کا رہے

مولانا عبد الماجد (دریا آبادی)